

<p>بای حال طالب سداستعمال بشیم معاصرین</p>	<p>بازخواست اصطلاح - بقول صاحب</p>
<p>عجم بزبان ندارند (ارو) قیامت</p>	<p>آنند بجواله فرنگ مرادف بازخیز که</p>
<p>بقول آصفیه عربی - اسم مؤنث - و وقت</p>	<p>قیامت درستی و حشر باشد مؤلف عرض</p>
<p>جب مرده زنده ہو کر کھڑے ہوں گے - روز</p>	<p>کند کہ دیگر کے از محققین فارسی زبان</p>
<p>حشر - رستخیز -</p>	<p>ذکر این نکرده صاحبان بحر و بہار (روز</p>
<p>بازخواست) راہمین معنی آورده اند اگر</p>	<p>بازخواست اصطلاح - بقول بہار و اشند</p>
<p>معروف و گویند کہ ترکی قوشخانہ گویند مؤلف</p>	<p>سداستعمال (بازخواست) بدست آید</p>
<p>عرض کند کہ قوش در ترکی بقول صاحب</p>	<p>توانیم عرض کرد کہ کنایہ باشد از روز قیامت</p>
<p>کثر بمعنی طائر است و عصفور و بقول</p>	<p>کہ (خواستن) بقول بحر بمعنی برپاشدن</p>
<p>صاحب لغات ترکی بمعنی شکار و جانور</p>	<p>استادن است پس معنی لفظی این روزی</p>
<p>پس بازخانہ در فارسی زبان بمعنی حقیقی</p>	<p>کہ مخلوق دیگر بار زنده شود و بر خیزد و ترجمہ</p>
<p>اوست و خانہ کہ در ان باز ہا نگاہ دارند</p>	<p>قیامت باشد کہ معنی لفظی آن ہم قائم شدن</p>
<p>و بلحاظ ترجمہ قوشخانہ شکار خانہ باشند</p>	<p>است و بقول غیاث روز حشر ابدین</p>
<p>حیف است کہ سداستعمال پیش نشد و</p>	<p>سبب قیامت گفتند کہ در ان روز</p>
<p>محققین فارسی زبان ذکر این نکرده اند</p>	<p>مردگان زنده شدہ قیام کنند اصلاً</p>
<p>و معاصرین عجم بزبان ندارند و شکار خانہ</p>	<p>روز قیامت و روز بازخواست بود</p>
<p>را گویند کہ جانوران شکاری در</p>	<p>در استعمال زبان روز را حذف کردند</p>

<p>محرک باشند اگر سندا استعمال پیش شود و رہانیدن مطلقا (لر و و) بجای اولیانا توانیم عرض کرد که فارسیان این را مجازا مخلصی بنام چهرانام</p>	<p>معنی شکارخانه استعمال کرده باشند (ار و و) بازخشیان اصطلاح بقول برهان شکارخانه فارسی اسم مذکر و گمر کبر ثالث و فتح حالتی نقطه دار و شین</p>
<p>جس میں شکاری جانور رکھے جائیں۔ قرشت بہ تختانی رسیده و بنون زودہ باز خریدن از چیزی مصدر اصطلاحی نوعی از باز باشد که پشت آن سپاه و</p>	<p>بقول بهار و بحر غلامی و اوان و رہانیدن تیره رنگ و چشم بالیش سرخ بود و از و (ملا و حشی س) بفر و خسته خورا این قسم باز را ترکان (غزل قوش)</p>
<p>زعمت باز خریدیم با آن خط غلامی که خوانند صاحب جامع بر (قزل قوش) بدیدیم در دیدیم با مؤلف عرض کند که قانع صاحب ناصری با اتفاق برهان</p>	<p>ذکر این در ردیف الف مقصوره بر اذ گوید که این بسیار قوی شکار است و آن چیزی باز خریدن گذشت (قدسی س) را خشینه نیز گویند و در اشعار شعرا بسیار</p>
<p>از نصیحت های عنواران جنون بازم مذکور مؤلف عرض کند که صاحب خرید و کلشن افسرده بودم آفتابم زنده لغات ترکی ذکر (قزل قوش) نکر و و</p>	<p>کرد و بنجیال (باز خریدن) در محاوره ترجمه لفظی این هر دو لفظ و ترکی طائر فارسی آزادی بخشیدن برده باشد با و مغشوش و سرخ است صاحب برهان</p>
<p>قیمتش و کنایه باشد از خلاص و اوان و بر لغت خشین فرماید که هر چیزی که آن کبروی مغشوش و سرخ است صاحب برهان</p>	<p>باز خریدن از چیزی صاحب جامع بر (قزل قوش) ذکر این در ردیف الف مقصوره بر اذ گوید که این بسیار قوی شکار است و آن چیزی باز خریدن گذشت (قدسی س) را خشینه نیز گویند و در اشعار شعرا بسیار</p>
<p>مغشوش و سرخ است صاحب برهان قیمتش و کنایه باشد از خلاص و اوان و بر لغت خشین فرماید که هر چیزی که آن کبروی</p>	<p>باز خریدن از چیزی صاحب جامع بر (قزل قوش) ذکر این در ردیف الف مقصوره بر اذ گوید که این بسیار قوی شکار است و آن چیزی باز خریدن گذشت (قدسی س) را خشینه نیز گویند و در اشعار شعرا بسیار</p>

<p>باز نماید گویند باز خمید یعنی بطعنه سخن او را گویند که پشت او کبود و تیره و چشمهایش سیاه رنگ باشد خصوصاً گویند که بعد از تولد اول یعنی پر نخین اول چشم او سرخ می شود و او را تبرکی قزلقوش خوانند و بعضی گویند که بازے باشد نه سیاه و نه سفید و نام ولایتی هم از ما و را و التهر (انتهی) پس تحقیقت وجه تسمیه این همین است مرکب توصیفی است که لغت اصناف هم مستعمل در او (۱۰) باز کے ایک قسم کا نام ہے جسکی پیشہ سیاه اور تیرہ اور آنکھیں سرخ ہوتی ہیں۔ مذکور۔</p>	<p>باز نماید گویند باز خمید یعنی بطعنه سخن او را گویند کہ پشت او کبود و تیرہ و چشمهایش سیاه رنگ باشد خصوصاً گویند کہ بعد از تولد اول یعنی پر نخین اول چشم او سرخ می شود و او را تبرکی قزلقوش خوانند و بعضی گویند کہ بازے باشد نہ سیاه و نہ سفید و نام ولایتی هم از ما و را و التهر (انتهی) پس تحقیقت وجه تسمیه این همین است مرکب توصیفی است کہ لغت اصناف ہم مستعمل در او (۱۰) باز کے ایک قسم کا نام ہے جسکی پیشہ سیاه اور تیرہ اور آنکھیں سرخ ہوتی ہیں۔ مذکور۔</p>
<p>باز خمیدن (۲) را ذکر کند و صاحب جامع بذر معنی اول الذکر</p>	<p>باز خمیدن (۲) را ذکر کند و صاحب جامع بذر معنی اول الذکر</p>
<p>باز خمیدہ (۳) را نوشت و صاحب موار و بر (خانیدن) گوید کہ حرف حکایت و حرکات و سکونات کے را تقلید نمودن از روی تمسخر و فرماید کہ این مجاز است کہ مشہور شدہ و شیرازیان این را و الوچاں و والوچانڈن و بر آوردن گویند و صاحب</p>	<p>باز خمیدہ (۳) را نوشت و صاحب موار و بر (خانیدن) گوید کہ حرف حکایت و حرکات و سکونات کے را تقلید نمودن از روی تمسخر و فرماید کہ این مجاز است کہ مشہور شدہ و شیرازیان این را و الوچاں و والوچانڈن و بر آوردن گویند و صاحب</p>
<p>باز خمیدہ اصطلاح۔ بقول سروری نامری کہ از اہل زبان است پر خماند بسکون زا وقع حاوکسریم یعنی کسی کہ بطعنه گوید کہ بروزن رساند مستقبل خم کردن و بمعنی تقلید کردن حرف و حرکت کے صاحب برہان گوید کہ کسی کہ بعنوان طعنه از تمسخر و بمعنی تقلید و تمسخر کرد چنان کہ طیان بھی گفته (ع) چون بوزنہ گوید کہ</p>	<p>باز خمیدہ اصطلاح۔ بقول سروری نامری کہ از اہل زبان است پر خماند بسکون زا وقع حاوکسریم یعنی کسی کہ بطعنه گوید کہ بروزن رساند مستقبل خم کردن و بمعنی تقلید کردن حرف و حرکت کے صاحب برہان گوید کہ کسی کہ بعنوان طعنه از تمسخر و بمعنی تقلید و تمسخر کرد چنان کہ طیان بھی گفته (ع) چون بوزنہ گوید کہ</p>

باز خوانید و فرماید کہ خوانیدن اصل و کردن و زخندان خود را بطریق ہزل
 مصدر آنتست۔ صاحب برہان ہم بر خواندو بہ نقل آن خوانیدن و کج کردن گویا خمیدہ
 خوانید و خوانیدن و گر این معنی کرده گوید کہ کسی را باز خوانیدن است کہ مکروہ الطبع و چیز
 کہ تقلید کسی کند و سخن اورا بہمان ترتیب لا حاصل بے نتیجہ و خلاف تہذیب باشد
 باز نماید گویند فلان باز خواندے مؤلف چنانکہ گشتہ را کشتن و کلمہ باز درین اصطلاح
 عرض کند کہ بخیاں (باز خوانیدن) و (باز خوانیدن) بضرورت آنتست کہ (باز خوانندہ) تکرار جان
 ہر دو بمعنی آخر الذکر صحیح است طرز بیان الفاظی کند کہ از زبان کسے برآمدہ و استعمال
 محققین بالافرق لفظی در بیان معنی ہر دو مصدر خوانیدن درین اصطلاح از براسے
 پیدا کردہ و آنان کہ مجرور خوانیدن) را بدین آنتست کہ نقال بہ نقل سخن ہالب و زخندان
 معنی آوردہ اند غور نہ کردہ اند و آنچه صاحب خود را خم و ہر و کج کند۔ این است حقیقت
 ناصری خواند را استقبال خم کردن نوشتہ ماخذ این اصطلاح۔ آنچه محققین زبانندان
 اعتبار قواعد فارسی نکرودہ با بجز معنی متکرر لازم و متعدی ہر دو را بدین معنی استعمال
 بالاکنایہ باشد یعنی چیزے کہ خمیدہ است کردہ اند محل نظر است کہ این معنی تعلق از
 آن را باز خوانید و کلمہ باز درینجا بمعنی تکرار مصدر لازم ندارد و لیکن قول سروری
 واقع شدہ بمعنی ششمش کہ گذشتہ حاصل کہ از اہل زبان است قابل لحاظ باشد
 اینست کہ سخن کسے را کہ از زبان کسے و بیش ازین نیست کہ استعمال مصدر لازم
 برآمدہ بر سبیل استہزا باز بہ زبان خود نقل بمعنی متعدیست بس (ارو) (اچڑایا

<p>مصدر (باز خوردن پھیرے) قائم کردہ مؤلف گوید کہ خوردن بقول بجز بمعنی ملاقی شدن آمدہ اندرین صورت کلمہ باز بہ معنی بست و دوش یعنی زائد باشد و (۲) بمعنی دیگر بار ملاقی شدن ہم اندرین صورت کلمہ باز بمعنی ششم اوست۔ مخفی مباد کہ آنچه صاحب شمس بر (الف) ذکر معنی دوم کرده بدون سند استعمال اعتبار رازشاید</p>	<p>یہ این کتاب باز خواندم (۲) واپس طلب کردن (ظہوری ۱۵) عقل از سو داسے جدر خوردن باز خواندہ عشق عطریین کاکل بر شام ہوش زد (۱۵) بست حسن لیلی باز خواند خویش را با عشق بجزون نہ پیاید کرد (ارو) (۱۱) پھر ٹہنا (۲) واپس طلب کرنا۔ (الف) باز خوردن اصطلاح۔ بقول شمس</p>
<p>و موافق قیاس ہم نسبت معاصرین عجم بر زبان نڈارند و دیگر کے از محققین فارسی زبان ذکر این نکرد (ارو) (الف) (۱) ملاقی و مقابل شدن است (۲) ڈر گیا۔ (ب) باز خوردن (باز خوردن از چیزی) راجع الہ بہار باز نہ زنا۔ سیوفانی او بے فرگی کی (ب) (۱) ملاقات کرنا۔ طنا۔ مقابل ہونا۔ (۲) پھر طنا۔</p>	<p>کر و (۲) ہینا کی بی معنی و بے فرگی کرد و بقول غیاث و بجز (ب) باز خوردن (مصدر اصطلاحی) (الف) (۱) ملاقی و مقابل شدن است (۲) ڈر گیا۔ (ب) باز خوردن (باز خوردن از چیزی) راجع الہ بہار باز نہ زنا۔ سیوفانی او بے فرگی کی (ب) (۱) ملاقات کرنا۔ طنا۔ مقابل ہونا۔ (۲) پھر طنا۔</p>
<p>باز و ادن (مصدر اصطلاحی)۔ بقول بہار و بجز (۱) بمعنی برگردانیدن (انوری)</p>	<p>رہنا بچمن باز خوردن چہم بر خارہ گل سرخ کرد و بہار و اتد بند چین شعر</p>

<p>(۵) منعش بنگلک بازو ہر طالع بدر اپکیش خودش گوید کہ نیست و نابود کردن است</p>	<p>(۵) منعش بنگلک بازو ہر طالع بدر اپکیش خودش گوید کہ نیست و نابود کردن است</p>
<p>بعل بازو بر و عامل جان را پد (ولہ ۵) و نسبت (۲) بجایش فرماید کہ خط بطلان</p>	<p>بعل بازو بر و عامل جان را پد (ولہ ۵) و نسبت (۲) بجایش فرماید کہ خط بطلان</p>
<p>دل بصرف غمش و اوم بدستم بازو او کشیدن بر چیزے مؤلف عرض کنند کہ</p>	<p>دل بصرف غمش و اوم بدستم بازو او کشیدن بر چیزے مؤلف عرض کنند کہ</p>
<p>ما ذکر (۱) بر (بازو بعدم و ادن) کردہ</p>	<p>ما ذکر (۱) بر (بازو بعدم و ادن) کردہ</p>
<p>می رود؛ مؤلف گوید کہ این معنی متعلق کہ بمعنی واپس بعدم و ادن کنایہ باشد</p>	<p>می رود؛ مؤلف گوید کہ این معنی متعلق کہ بمعنی واپس بعدم و ادن کنایہ باشد</p>
<p>باشد بمعنی ہفتم کلمہ بازو بہ تحقیق ما (۳) از نیست و نابود کردن - خلاف قیاس</p>	<p>باشد بمعنی ہفتم کلمہ بازو بہ تحقیق ما (۳) از نیست و نابود کردن - خلاف قیاس</p>
<p>بمعنی مکرر و ادن - باشد و این متعلق است نیست و لیکن طالب سند استعمال باشیم</p>	<p>بمعنی مکرر و ادن - باشد و این متعلق است نیست و لیکن طالب سند استعمال باشیم</p>
<p>بمعنی ششم کلمہ بازو (ظہوری ۵) بازوہ (۲) عرض می شود کہ معنی لفظی این</p>	<p>بمعنی ششم کلمہ بازو (ظہوری ۵) بازوہ (۲) عرض می شود کہ معنی لفظی این</p>
<p>تاب طرہ پر تاب؛ تودہ کن یک جهان دل واپس تقلم و ادن است یعنی چیز نوشته</p>	<p>تاب طرہ پر تاب؛ تودہ کن یک جهان دل واپس تقلم و ادن است یعنی چیز نوشته</p>
<p>بیاب؛ (ولہ ۵) طرح می گردند رخ راکا لعدم کردن و کنایہ باشد از خط</p>	<p>بیاب؛ (ولہ ۵) طرح می گردند رخ راکا لعدم کردن و کنایہ باشد از خط</p>
<p>یا ران بن پچرخ دون گو کام فرزین - بطلان کشیدن این ہم خلاف قیاس</p>	<p>یا ران بن پچرخ دون گو کام فرزین - بطلان کشیدن این ہم خلاف قیاس</p>
<p>بازوہ؛ (ارو و) (۱) واپس وینا نیست و لیکن سند استعمال باید مجرود تل</p>	<p>بازوہ؛ (ارو و) (۱) واپس وینا نیست و لیکن سند استعمال باید مجرود تل</p>
<p>لوٹانا - (۲) پھر وینا - مکرر وینا - بہار کفایت منی کند معاصرین عجم بزبان</p>	<p>لوٹانا - (۲) پھر وینا - مکرر وینا - بہار کفایت منی کند معاصرین عجم بزبان</p>
<p>(۱) بازو و ادن بعدم اصدا و اصطلاح نذرند مخفی مباد کہ ورین ہر دو اصطلاح</p>	<p>(۱) بازو و ادن بعدم اصدا و اصطلاح نذرند مخفی مباد کہ ورین ہر دو اصطلاح</p>
<p>(۲) بازو و ادن تقلم بہار بیدیل کلمہ بازو بمعنی ہفتم اوست (ارو و)</p>	<p>(۲) بازو و ادن تقلم بہار بیدیل کلمہ بازو بمعنی ہفتم اوست (ارو و)</p>
<p>(بازو و ادن) گوید کہ معنی خط بطلان کشیدن (۱) نیست و نابود کرنا - گئے ہوسے پر خط</p>	<p>(بازو و ادن) گوید کہ معنی خط بطلان کشیدن (۱) نیست و نابود کرنا - گئے ہوسے پر خط</p>
<p>بر چیز می است و ہم او نسبت (۱) بجای کہینچنا - باطل کر وینا -</p>	<p>بر چیز می است و ہم او نسبت (۱) بجای کہینچنا - باطل کر وینا -</p>

(۱۱۱۱)

بازو اون صدا | مصدر اصطلاحی۔ کہ ساخت آن بت گوسالہ تبرکب او ویتہ
 را، واپس کردن آوازے کہ در گنبد بلند خاص بود کہ اثرش آواز را در زمین و چنان
 یاوتره ہاے کوہ یا از آلہ گرامفون واپس درین روزہا از آلہ گرامفون این صنعت
 می آید و گنایہ از جواب و اون (حافظ را مشاہدہ کردہ ایم و شنیدہ ایم معاصرین
 شیراز ۱۵) بانگ گاوی چو صد بازو موسی علیہ السلام بوجہ ناواقفیت ازین
 عشوہ محراب کے سہا عکس ز خورشید مصفا حکمت اثر جادو خیال کردند خواجہ شیراز
 بیرون (صائب ۱۵) عاشق دل شدہ ہمین مضمون را در کلام خود آوردہ۔
 ہر چند کہ آواز وہد ہد کوہ تکمین تو شکل کہ (ارو) آواز گا واپس کرنا جیسے در
 صد بازو وہد ہد مخفی سب او کہ بانگ گا و در کوہ یا بلند گنبد سے واپس آتی ہے یا آلہ
 کلام خواجہ شیراز اشارہ بقصہ گوسالہ سے (۲) جواب دینا۔
 است کہ آواز می داد۔ درین قصہ **بازو وار** | اصطلاح۔ بقول سروری بہ
 اختلاف ہاست گویند کہ بزمانہ موسی حوالہ شرفنامہ و نسخہ میرزا برون رازو
 علیہ السلام جادو گر سامری گوسالہ از زارع و وہقان باشد و بازو یا مغرب نیست
 ظاہر است کردہ بود کہ ہچو گوسالہ ذیروح و جمشٹ بیازرہ (سلمان ۵) یاغ چون
 آواز می کرد بعض برانند کہ چون گا و زارعش خراب و کشت چون و شش سرب
 پیش آن گوسالہ آواز می کرد گوسالہ ہم جواب زارع آن را باغبان و قاز این را بازوار
 میداد و بخیاں ماہمین معتبری نماید عجیبی و فرماید کہ در شرح ساغی فی الاسامی (۲)

بمعنی دارندہ باز آوروں صاحب برہان	وکنایہ از زارع و وہقان۔ اسم فاعل
بذکر معنی اول نسبت معنی دوم گوید کہ پیر ترکیبی است و بمعنی دوم ہم اسم فاعل	
شکار و صیاد و نگاہ دارندہ باز و (۳)	ترکیبی باشد بمعنی دارندہ باز و مجازاً بمعنی
شخصے رائیہ گویند کہ مردم را از کارے و	مطلق شکاری و پیر شکار و بمعنی سوم ہم
چیزے باز دار و و منع کند و (۴) امر	اسم فاعل ترکیبی است و بمعنی چہارم امر
بازداشتن و منع کردن ہم۔ صاحب	حاضر از مصدر مذکور و بمعنی پنجم عزیز نسبت
رشدی بر معنی اول و دوم قانع و صاحب	کہ کلمہ باز بمعنی ششم اوست و دار امر حاضر
جامع بر معنی اول و صاحب بحر معنی چہارم	و داشتن و در معنی ششم کلمہ باز بمعنی اول
را گذاشت۔ صاحب ناصری بذکر پیر چہار	و دار امر حاضر مصدر داشتن (ار و و)
معنی با برہان شفق صاحب مؤید معنی اول	(۱) کاشتکار۔ بقول آصفیہ۔ فارسی۔ اسم
را ترک کردہ و بذکر معنی دوم و سوم و چہارم	مذکور۔ کسان۔ مزارع۔ کھیتی باڑی کرنیوالا
گوید کہ (۵) بمعنی بار و دیگر بار و (۶) باز	(۲) باز پالنے والا۔ شکاری۔ (۳) باز گھنٹے
را بدار۔ مؤلف عرض کند کہ بمعنی اول	والا۔ کسی کام کا مانع۔ (باز رکھنا) کا اسم
اسم فاعل ترکیبی است فرید علیہ بزوار	فاعل (۴) باز رکھ۔ اسی مصدر کا امر
کہ بز بافتح بمعنی زمین می آید و از کثرت	حاضر (۵) پھر رکھ (۶) باز کور رکھ۔
استعمال الف بعد موصدہ زیادہ شد چنانکہ	پاز و ارش استعمال۔ بقول ناصری
مہار و ماہار معنی لفظی این زمین دارندہ	بکسر شین (۱) مانعت کردن کہے را و از

<p>کارے بازداشتن و محبوس کردن صاحب از نقل نگارش مؤلف گوید که مقصودش خبرین نباشد که حاصل بالمصدر (بازداشتن) است که می آید و کبیراے مہلہ نہ نشین معجب حیف است کہ ما از معاصرین عجم نہ شنیدیم و قول صاحب ناصری کہ از اہل زبانت قابل قبول باشد و خیال ما اگر راے مہلہ را مفتوح گیریم (۲) یعنی بازوار اورا۔ (ارو) (۱) باز رکھنا حاصل بالمصدر کے معنوں میں (۲) اسکو باز رکھ۔</p>	<p>و صاحب بحر مشفق با برہان بہرہ و معنی۔ بہار ذکر (بازداشتن از چیرے) کردہ ذکر معنی اول کند و برائے معنی دوم از آقا زمان زرش سند آورده (۱۵) کعبہ مارا از طواف خانہ دل بازداشت راہ رورا منزل نزدیک کابل می کند (سعدی ۱۵) خواب نوشین بامداد رحیل بوزار و پیادہ راز سبیل ب۔ مؤلف عرض کند کہ حقیقت معنی اول درین داشتن است مجاز معنی چهارم و ہم</p>
<p>بازداشتن مصدر اصطلاحی قبول (۱) کنایہ از (استاد فرخی ۵) تو گوی بگواری پوسن نہ بیگانہ بازمداری ہا صاحب کہ (۲) یعنی منع زندہ ترسیاب من ہا (ظہوری ۱۵) باہم صاحب رشیدی مشفق با بہانہ چنگ دل از نفس و لشکرگان بازداشت</p>	<p>و در معنی دوم ہذا کردن و محروم دانستن باشد ہم متعلق معنی ہماروم مانع شدن مجاز آن ہا صاحب (۱۵) مرگ نتواند مرا از سیراری ہا صاحب بازداشت ہا می شود و صاحب زکشتن ہا صاحب رشیدی مشفق با بہانہ چنگ دل از نفس و لشکرگان بازداشت</p>

<p>نغمہ نالہ درین تا کرشیدیم عبث (انوری) طفلان باشد مؤلف عرض کند کہ دیگر</p>	<p>گفتہ کہ باز دار و تاثیرات ریش کے از محققین فارسی زبان ذکر این</p>
<p>گفتا کہ می چوئی تقدیر ہام راسم (ارو) مکر و بقول صاحب کثر (باز و اند)</p>	<p>گفتا کہ می چوئی تقدیر ہام راسم (ارو) مکر و بقول صاحب کثر (باز و اند)</p>
<p>در منع کرنا چھانا۔ (۲) باز رکھنا۔ رو</p>	<p>در ترکی زبان بعضی حجاب آمدہ اگر سند</p>
<p>روک رکھنا۔ سدرہ ہوندا منع کرنا۔</p>	<p>استعمال این پیش شود تو انیم عرض کرد کہ</p>
<p>باز و انسستن استعمال۔ صاحب</p>	<p>باز و انسستن استعمال۔ صاحب</p>
<p>ذکر (باز و انسستن) کردہ گوید کہ فرق</p>	<p>مخفف و مفرس لغت ترکی است و جا</p>
<p>مکرون میان دو چیز باشد مؤلف عرض</p>	<p>دارد کہ باز رند کہ بر اسے مہلہ چارم</p>
<p>کند کہ بعضی تمیز کردن متعلق بمعنی سیر و ہم</p>	<p>می آید متبدل این باشد کہ وال مہلہ بہ</p>
<p>کلمہ باز (بہرامی سرخسی ۵) جز تلخ و تیر</p>	<p>راے مہلہ بدل شد چنانکہ باو دان و</p>
<p>آب ندیدم در ان زمین چو حقا کہ پیچ باز</p>	<p>باز و ان با بچہ معاصرین عجم بر زبان نذر</p>
<p>ندانستم از رکاب (ارو) فرق</p>	<p>طالب سند استعمال باشیم (ارو)</p>
<p>کرنا۔ تمیز کرنا۔</p>	<p>کرنا۔ تمیز کرنا۔</p>
<p>باز و ندان اصطلاح۔ بقول صاحب</p>	<p>بقول صاحب</p>
<p>ہفت بفتح اول بالف کشیدہ و اسے</p>	<p>اسم مؤنث۔ انگلی۔ محرم۔ چولی جو روئی</p>
<p>ہو ز و فتح وال مہلہ و نون و وال ثانی</p>	<p>کاسینہ بند (۲) بچوں کاسینہ بند۔ مذکر</p>
<p>زودہ (۱) پستان بند زمان (۲) سینہ</p>	<p>باز و ندان اصطلاح۔ بقول روزنامہ</p>

بجو الہ سفر نامہ ناصر الدین شاہ قاجار
 بمعنی ملاقات ثانی۔ صاحب رہنما صراحت
 کند کہ چون زید بلاقات بکرمی آید بکرمی
 خانہ زید براسے باز دیدش می رود
 صاحب بول چال فرماید کہ بدل ملاقات
 را گویند مؤلف عرض کند کہ معاصرین
 عجم بر زبان دارند و کلمہ بازورین
 اصطلاح بمعنی ششم اوست یعنی ملاقات
 مکرر (ارود) بازوید۔ بدل ملاقات
 یعنی جب زید بکرمی ملاقات کو آتا ہے
 تو بکرمی زید کے گھر بازوید کے لئے جاتا ہے
 بازوید کروں | مصدر اصطلاحی۔
 بہار گوید کہ از کلام مولانا شرف الدین
 علی نیرودی۔ صاحب تیمور نامہ بمعنی (۱)
 آفریدن و پھنود آوردن معلوم می شود
 و ہمین معنی در کتب طبیبہ در خواص بعض
 ادویہ آورده اند (فقہہ دا) کے فلان
 چیز اشتہار بازوید کند و راستہ گوید کہ
 (۳) در تحقیق چیزے متحقق کروں (۱) اسمعیل
 ایما (۵) فارغ و می نہ گشتیم از بازوید
 ایسات ہاگر دیدہ ایم گویا مانا نظر بیوتات ہا
 ہم او فرماید کہ شرف الدین علی نیرودی در
 قصہ عاشق شدن خلیل سلطان بر شاہ
 ملک قتمہ امیر حاجی و انحراف مزاج صاحب
 ازین ماجرا و صدور حکم با حضار شاہ
 و روپوش ساختنش خلیل سلطان گوید
 (فقہہ) حکم شد کہ اورا بازوید کردہ تا حین
 سازندہ صاحب بحر بمعنی دوم قانع
 مؤلف عرض کند کہ از سند شرطش کروں
 و راستہ تصدیق معنی دوم یعنی بہ بنو آوردن
 می شود و معنی سوم بیان کردہ اش از کمال
 اسمعیل ایما ثابت نمی شود بخیاں مانگرا می کرد
 است بلا حطہ و شاہدہ پایا یعنی بار ہا وید
 معنی مباد کہ طرز بیان معنی اول ہم درست نیست

<p>بخیال ما واپس آوردن است و سبب ہمار۔ موافق خیال ماست۔ ما از معاصرین عجم شنیدہ ایم کہ (۴) باز دید کردن۔ بدل ملاقات کردن ہم چنانکہ صراحت این بر (باز دید) کرده ایم و در سہ چہار معنی یا بلا کلمہ باز بمعنی ششم اوست (ار و و) (۱) کہ (باز دار) بمعنی مینا و بجایے خود گذشت پس واپس لانا۔ (۲) نمودین لانا۔ ظہورین لانا۔ (۳) نگرانی کرنا۔ کنی بار و کینا (۴) مناسب است و چند را در چند سار بودن باز دید کرنا۔ باز دید کی ملاقات کرنا یعنی تباولہ ملاقات۔ و کھو باز دید۔</p>	<p>بدون سندا استعمال اصلا تسلیم نہ کنیم (ار و و) (الف) پھر دیکھنا۔ مکرر دیکھنا (۲) مکرر دیکھا ہوا بازار بازار بودن بہ مثل۔ حساب چندرا چند سار بودن خزینه ذکر این کردہ از معنی ساکت مؤلف عرض کن کہ (باز دار) بمعنی مینا و بجایے خود گذشت پس معنی لفظی این خبرین نباشد کہ بازار مینا و مناسب است و چند را در چند سار بودن اوسے۔ مخفی مباد کہ در مصرع دوم بعد کلمہ رآبے موقدہ یعنی در محذوف باشد مقصود اینست کہ ہر کس را کارے باید کرد</p>
<p>باز دید کرنا۔ باز دید کی ملاقات کرنا یعنی تباولہ ملاقات۔ و کھو باز دید۔</p>	<p>باز دید کرنا۔ باز دید کی ملاقات کرنا یعنی تباولہ ملاقات۔ و کھو باز دید۔</p>
<p>باز دید کرنا۔ باز دید کی ملاقات کرنا یعنی تباولہ ملاقات۔ و کھو باز دید۔</p>	<p>باز دید کرنا۔ باز دید کی ملاقات کرنا یعنی تباولہ ملاقات۔ و کھو باز دید۔</p>
<p>باز دید کرنا۔ باز دید کی ملاقات کرنا یعنی تباولہ ملاقات۔ و کھو باز دید۔</p>	<p>باز دید کرنا۔ باز دید کی ملاقات کرنا یعنی تباولہ ملاقات۔ و کھو باز دید۔</p>
<p>باز دید کرنا۔ باز دید کی ملاقات کرنا یعنی تباولہ ملاقات۔ و کھو باز دید۔</p>	<p>باز دید کرنا۔ باز دید کی ملاقات کرنا یعنی تباولہ ملاقات۔ و کھو باز دید۔</p>
<p>باز دید کرنا۔ باز دید کی ملاقات کرنا یعنی تباولہ ملاقات۔ و کھو باز دید۔</p>	<p>باز دید کرنا۔ باز دید کی ملاقات کرنا یعنی تباولہ ملاقات۔ و کھو باز دید۔</p>
<p>باز دید کرنا۔ باز دید کی ملاقات کرنا یعنی تباولہ ملاقات۔ و کھو باز دید۔</p>	<p>باز دید کرنا۔ باز دید کی ملاقات کرنا یعنی تباولہ ملاقات۔ و کھو باز دید۔</p>
<p>باز دید کرنا۔ باز دید کی ملاقات کرنا یعنی تباولہ ملاقات۔ و کھو باز دید۔</p>	<p>باز دید کرنا۔ باز دید کی ملاقات کرنا یعنی تباولہ ملاقات۔ و کھو باز دید۔</p>
<p>باز دید کرنا۔ باز دید کی ملاقات کرنا یعنی تباولہ ملاقات۔ و کھو باز دید۔</p>	<p>باز دید کرنا۔ باز دید کی ملاقات کرنا یعنی تباولہ ملاقات۔ و کھو باز دید۔</p>
<p>باز دید کرنا۔ باز دید کی ملاقات کرنا یعنی تباولہ ملاقات۔ و کھو باز دید۔</p>	<p>باز دید کرنا۔ باز دید کی ملاقات کرنا یعنی تباولہ ملاقات۔ و کھو باز دید۔</p>
<p>باز دید کرنا۔ باز دید کی ملاقات کرنا یعنی تباولہ ملاقات۔ و کھو باز دید۔</p>	<p>باز دید کرنا۔ باز دید کی ملاقات کرنا یعنی تباولہ ملاقات۔ و کھو باز دید۔</p>
<p>باز دید کرنا۔ باز دید کی ملاقات کرنا یعنی تباولہ ملاقات۔ و کھو باز دید۔</p>	<p>باز دید کرنا۔ باز دید کی ملاقات کرنا یعنی تباولہ ملاقات۔ و کھو باز دید۔</p>
<p>باز دید کرنا۔ باز دید کی ملاقات کرنا یعنی تباولہ ملاقات۔ و کھو باز دید۔</p>	<p>باز دید کرنا۔ باز دید کی ملاقات کرنا یعنی تباولہ ملاقات۔ و کھو باز دید۔</p>
<p>باز دید کرنا۔ باز دید کی ملاقات کرنا یعنی تباولہ ملاقات۔ و کھو باز دید۔</p>	<p>باز دید کرنا۔ باز دید کی ملاقات کرنا یعنی تباولہ ملاقات۔ و کھو باز دید۔</p>
<p>باز دید کرنا۔ باز دید کی ملاقات کرنا یعنی تباولہ ملاقات۔ و کھو باز دید۔</p>	<p>باز دید کرنا۔ باز دید کی ملاقات کرنا یعنی تباولہ ملاقات۔ و کھو باز دید۔</p>
<p>باز دید کرنا۔ باز دید کی ملاقات کرنا یعنی تباولہ ملاقات۔ و کھو باز دید۔</p>	<p>باز دید کرنا۔ باز دید کی ملاقات کرنا یعنی تباولہ ملاقات۔ و کھو باز دید۔</p>

<p>برہان در کتابت این ہم زائے سوم را فارسی نقل کرده و حیف است که صراحت علیہ لفظ نکرده. خان آرزو در سراج بازار و بازار رندپور و بازار اے ہوز سوم کیجا نوشتہ فرماید کہ سینه بند طفلان و زنان (کافی البرہان) و گوید کہ تخصیص جہانگیر سینه بند زنان خطاست و تحقیق آنست کہ اول متبدل ثانی است چرا کہ وال بہ کاف فارسی بدل شود چنانکہ استخوان رند و آخو رنگ (انتہی) و صاحب جامع بذیل ہر دو لفظ بالا ذکر ہر دو معنی کند و صاحب نام بذکر ہر دو معنی بالا گوید کہ این را بازار رنگ ہم گویند مؤلف عرض کند کہ تحقیق ما انہست کہ (بازوند) بہ وال مہملہ چارم اصل است چنانکہ گذشت و ذکر ماخذش ہمدرا بخاند کور و (بازرند) بہ رائے مہملہ پنجم متبدل آن چنانکہ ذکرش ہمدرا بخاند کور</p>	<p>و بحر و ناصری و غیاث مخفف بازارگان - مؤلف گوید کہ اگر لغت فارسی گیریم مخفف بازارگان است و حقیقت ماخذ بازارگان ہمدرا بخاند کور (نظامی) تو بازارگان صدر و ارقندی ہا سز و گر بر غریبان و نہ بندی ہا ولیکن صاحب کثر کہ محقق ترکی زبان است این را بہ کسر زائے ہوز لغت ترکی گوید یعنی تاجرو (بازرگانلق) مصدر ترکی زبان است بکسر زائے منقولہ بمعنی تجارت کروں و بیع و شرا نمودن و گرفتن و واو ن پس اندر بی صورت باید کہ بازارگان را بزایدت الف بعد زائے مجموعہ مفرس و انیم (اردو) و کیمو بازارگان بازرند اصطلاح - بقول برہان کہ بذیل (بازرنگ - بہ زائے فارسی) آخو بمعنی (۱) پستان بند زمان است (۲) و سینه بند طفلان - مخفی مباد کہ صاحب</p>
--	---

و بازار رنگ کہ می آید سبذل این چنانکہ خان بہرہ و معنی مرادف یکدیگر گوید و صاحب آرزو سندان قسم تبدیل پیش کرده و اگر (باز رنگ) بر اصل گیریم و (باز رند) را سبذلش اندر صورت باید کہ معنی لفظی این مثل باز یعنی مثل باع باشد زیرا کہ سینہ بند زنان کہ نامش در اردو چولی و انگلیا است مشابہ کہے است کہ بہرہ و دست خود را باز کرده باشد۔ فالاول اقوی من الاخر برقص چون در آید دل قریح برود بازار (اردو) دیکھو بازوند۔

باز رنگ اصطلاح۔ صاحب بہرہ و معنی مرادف عرض کند کہ بحوالہ تحفہ گوید کہ ہر اسے سجدہ بوزن باورنگ (۱) سینہ بند طفلان و بحوالہ فرنگ فرماید کہ (۲) سینہ بند زنان کہ پستان در ان نہند و بر پشت گرہ زنند کہ پستان بزرگ نشود۔ صاحب رشیدی ذکر بہرہ و معنی کرده و خان آرزو در سراج این را با (باز رند) آورد کہ خلاف قیاس نیست کنا یہ ایست (اردو) کہ بجایش مذکور شد و صاحب جامع بہرہ و دیکھو آفتاب کے دوسرے معنی۔

رنگ از مہ و خورشید کند بازار رنگ از رنگ از مہ و خورشید پرودہ مؤلف عرض کند کہ با حقیقت ماخذ این بر (بازوند) و (باز رنگ) بیان کرده ایم (اردو) دیکھو بازوند۔ بازار روز اصطلاح۔ بقول بحر مضافت آفتاب را گویند۔ دیگر کہے از محققین فارسی زبان ذکر این مگر مؤلف عرض کند کہ خلاف قیاس نیست کنا یہ ایست (اردو) دیکھو آفتاب کے دوسرے معنی۔

(۱۱۱۱)

بازرون مصدر اصطلاحی یعنی تیز بر (باز سفید پر) ذکر این کرده اند و صاحب
 کردن و ممتاز دانستن باشد و متعلق به معنی رشیدی با جانگیری متفق مؤلف عرض
 سیزدهم کلمہ باز (ظہوری ۵) زور کند کہ سپید بیدل سفید است چنانکہ سبیل
 زاریم بین قدرت بجزم بنکر پوزنیاز و قیل حیفاست کہ سزا استعمال پیش نشد
 و گران باز زوم ناز تراپ (ارو) قول صاحب جامع راست توان گرفت
 تیز کرنا ممتاز خیال کرنا۔ کہ از اہل زبانست (ارو) و کچھ آفتاب
باز سہر اصطلاح بقول صاحب ضمیر کے دوسرے معنی۔

(۱۱۱۲)

برہان و بحر و مؤید (۱) کنایہ از آفتاب **باز ستاون** مصدر اصطلاحی مخفف
 عالمتاب و (۲) کنایہ از روزیم مؤلف (باز ستاون) است و معنی این استقامت
 عرض کند کہ اگر باز را مضاف کنیم سبے سپہر گزیدن و پافشردن و جاے خود را نگذاشتن
 بمعنی اول موافق قیاس است و براسے و حرکت نکردن و این معنی از لفظ باز پیدا
 معنی دوم طالب سند باشیم کنایہ لطیف شد کہ متعلق است بمعنی شمش یعنی دیگر و
 نیست (ارو) (۱) و کچھ آفتاب مکرر و این تکرار معنی استقامت راقائم
 کے دوسرے معنی (۲) دن نہ کر۔ کہ کہ استاون را باز ستاون قوت می باشد
باز سفید اصطلاح بقول صاحب (صائب ۵) شیرازہ قلم و کثرت زوفا
 جانگیری کہ در ضمیر کتاب آورده کنایہ است کہ دار و علم باز ستاون سپاہ را
 از آفتاب و صاحبان برہان و جامع و کچھ (ارو) قدم گاڑنا بقول آصف

<p>پاؤن جانا۔ آپ ہی نے فرمایا ہے۔ قدم جانا۔ بازسپید پر (گذشت (ارو و) دیکھو</p>	<p>پافشردن کا ترجمہ۔ ڈٹ کر ہٹا ہونا۔ جگر بازسپید پر۔</p>
<p>کھٹرا ہونا۔ (نسیم سے) دارفانی مقام نعر بازسپید پر</p>	<p>کھٹرا ہونا۔ (نسیم سے) دارفانی مقام نعر بازسپید پر</p>
<p>اصفی ذکر این کردہ از معنی ساکت مؤلف بازستاندن استعمال۔ صاحب آصفی گوید کہ (۱) واپس شدن و مراجعت کردن ذکر این کردہ از معنی ساکت مؤلف گوید و (۲) کشادہ شدن (۳) ترک شدن متعلق کہ واپس گرفتن است متعلق بہ معنی ہفتم کلمہ بمعنی ہفتم و دہم و چہار دہم کلمہ بازسند باز (صائب سے) وزومی بوسہ عجب این در لطیحات می آید (ارو و) واپس وزومی خوش عاقبت است کہ اگر باز ہونا۔ مراجعت کرنا (۲) کھلنا۔ (۳) ترک ستاند و چندان گروہ (انوری سے) ہونا۔ چھوٹنا۔</p>	<p>اصفی ذکر این کردہ از معنی ساکت مؤلف گوید و (۲) کشادہ شدن (۳) ترک شدن متعلق کہ واپس گرفتن است متعلق بہ معنی ہفتم کلمہ بمعنی ہفتم و دہم و چہار دہم کلمہ بازسند باز (صائب سے) وزومی بوسہ عجب این در لطیحات می آید (ارو و) واپس وزومی خوش عاقبت است کہ اگر باز ہونا۔ مراجعت کرنا (۲) کھلنا۔ (۳) ترک ستاند و چندان گروہ (انوری سے) ہونا۔ چھوٹنا۔</p>
<p>دلی بیرو کہ یک لفظ باز می نفرستد کا غمی بازستاندن از جالی مصدر اصطلاحی یاد کہ یک و ترہ باز می نہ ستاند (۱) و (۲) بقول بہار بمعنی برکشتن و معاودت (۳) اسے چرخ جز آیت بلا خوانی نے کردن (میر معزی سے) باز شد از عراق کو بر کس قلمی ز عاقبت رانی نے آچہ خرم و شاد کا سیف دولت ایٹمیں الین ندی کہ بازستانی نے کے گور کیو و خود کے مؤلف عرض کند کہ متعلق است جزین دانی نے کے (ارو و) واپس لیند بمعنی ہفتم کلمہ باز صاحب آصفی این را باز سفید سے اصطلاح۔ بہانست کہ (باز شدن از چیزے) بہین معنی و پاستنا</p>	<p>دلی بیرو کہ یک لفظ باز می نفرستد کا غمی بازستاندن از جالی مصدر اصطلاحی یاد کہ یک و ترہ باز می نہ ستاند (۱) و (۲) بقول بہار بمعنی برکشتن و معاودت (۳) اسے چرخ جز آیت بلا خوانی نے کردن (میر معزی سے) باز شد از عراق کو بر کس قلمی ز عاقبت رانی نے آچہ خرم و شاد کا سیف دولت ایٹمیں الین ندی کہ بازستانی نے کے گور کیو و خود کے مؤلف عرض کند کہ متعلق است جزین دانی نے کے (ارو و) واپس لیند بمعنی ہفتم کلمہ باز صاحب آصفی این را باز سفید سے اصطلاح۔ بہانست کہ (باز شدن از چیزے) بہین معنی و پاستنا</p>

<p>بمعنی کشاوه شدن آن است متعلق به معنی و هم کلمه باز (سعدی شیرازی سے) بروے خود در طالع باز نتوان کرد و چون</p>	<p>بہمین شعر کجوالہ بہار نوشتہ تسامح اوست وہ خیال ماجائی یا مقامی بہتر از چیزی است (ارو) لوشا معاوت کرنا۔</p>
<p>باز شد بد رشتی فرزند نتوان کرد و کند دیگر از کلام منوچہری بر معنی و ہم کلمه باز مذکور شد و متعلق بہمین مصدر است باز</p>	<p>باز شدن بہ چیزے مصدر اصطلاحی یعنی رجوع شدن بسوے چیزی باشد متعلق معنی ہنتم کلمه باز (انوری سے) اسے خرد</p>
<p>سوارہ پیش کسے لاف می زنی ہر کوشد شدن چشم) و باز شدن در (ارو) سوار فضل بمیدان روزگار ہانے نے کھلنا جیسے آنکہ کھلنا۔ دروازہ کھلنا۔ بمدح باز شود پس گویے زود ہر گاہے</p>	<p>سوارہ پیش کسے لاف می زنی ہر کوشد شدن چشم) و باز شدن در (ارو) سوار فضل بمیدان روزگار ہانے نے کھلنا جیسے آنکہ کھلنا۔ دروازہ کھلنا۔ بمدح باز شود پس گویے زود ہر گاہے</p>
<p>باز شدن در مصدر اصطلاحی۔ متعلق معنی و ہم کلمه باز (صائب سے) بعد ایامی کہ در ہائے اجابت باز شد آہ</p>	<p>نابت از وجود تواریکان روزگار کند حکیم سوزنی کہ بر معنی ہنتم کلمه باز مذکور شد متعلق از بہمین است (ارو) رجوع</p>
<p>در دل ہر جوہر ریشہ در فولاد داشت (ارو) دروازہ کھلنا۔ باز شدن دست لہنجا مصدر</p>	<p>باز شدن چشم مصدر اصطلاحی معنی و اشدن چشم و متعلق معنی و ہم کلمه باز است و سند این از کلام انوری ہنتم</p>
<p>اصطلاحی یعنی واقع شدن سخاوت و عطا و متعلق بہ معنی و ہم کلمه باز باشد</p>	<p>مذکور شد (ارو) آنکہ کھلنا۔ باز شدن چشمے مصدر اصطلاحی</p>

(۲۱۱۶)

(۲۱۱۷)

(۲۱۱۸)

(۲۱۱۷)

(۲۱۱۸)

(۱۲۱۲)

(۱۲۱۳)

(انوری سے) دست خصمت بسخاران
نشود باز کہ نخل پودستہا نشان برحم و ہم
در خام گرفت پ (ارو) سخاوت
واقع ہونا۔ سخاوت ہونا۔

استعمال است بمعاصرین عجم بر زبان
مذارند۔ موافق قیاس و متعلق بہ معنی وہم
است و معنی لفظی این کثادگی پیداشدن
در کار باشد و کنایہ از سرانجام یافتن آن

بازشدن راہ | مصدر اصطلاحی یعنی
کثادہ شدن راہ متعلق بمعنی وہم کلمہ باز

طالب سند استعمال باشیم (ارو) کسی
کام کار سرانجام پانا۔

(ظہوری سے) پیغام چون روانہ کنی در
خبر نشین پ راہ نظر جو باز شود در نظر نشین
پ (ارو) رات کھنا۔ کثادہ ہونا۔

بازشدن گوشہ چشم بکسری | مصدر
اصطلاحی۔ بقول بہار و بحر التفات کردن
بہ وسے (خواجہ شیراز سے) گوشہ چشم

بازشدن عادت | مصدر اصطلاحی
یعنی ترک شدن آن است متعلق بمعنی

رضائی بنت باز شد پ این چندین عزت
صاحب نظران میداری پ مؤلف عرض

چار وہم کلمہ باز۔ سند این از مسعود سعد
ہمدراہ گذشت (ارو) عادت ترک
ہونا۔ چوٹنا۔

کند کہ متعلق است بہ معنی وہم کلمہ باز
و تحت مصدر اصطلاحی (بازشدن چیری)
گذشت (ارو) التفات کن کسی چیز

بازشدن کار | مصدر اصطلاحی۔
کے طرف۔

بازشناختن خبرے از خبرے | مصدر

بقول بحر سرانجام یافتن کار مؤلف عرض
کند کہ بحر قول صاحب بحر تقاضی سند

اصطلاحی۔ بقول آند بواکہ عوام من سخن

<p>اقتیاز کردن در هر دو (ظہیر قدیانی سے)</p>	<p>باز کردن مصدر اصطلاحی بقول بہا</p>
<p>بہتر نہفتہ چوغقا باندا از انکہ نامد ہا کے کہ</p>	<p>بمعنی (۱) جدا کردن و (۲) کشادن و اورستہ</p>
<p>باز شناسد ہا سے را از خواہد ہا مؤلف</p>	<p>و بجز بر معنی اول قانیہ صاحب روز نامہ</p>
<p>عرض کند کہ کلمہ باز درین جا متعلق است</p>	<p>بحوالہ سفر نامہ ناصر الدین شاہ قاچار بزرگ</p>
<p>بمعنی سیزدہمیش کہ گذشت و معنی لغظی این</p>	<p>معنی دوم قانع مؤلف عرض کند کہ معنی</p>
<p>شاہنق بہ امتیاز چیزی از چیزی است</p>	<p>اول متعلق است از معنی چہار و ہم کلمہ باز</p>
<p>(ارو و) امتیاز کرنا و چیزوں میں۔</p>	<p>و معنی دوم تعلق دارد با معنی دہمیش و از</p>
<p>بازگت بقول اندر بحوالہ فرہنگ فرنگ</p>	<p>ہمین مصدر عام تعلق دارد بمصادر خاصہ</p>
<p>بفتح زای معجمہ و سکون کاف تازی لغت کہ</p>	<p>در ملحقات می آید و خیال ما (۳) بمعنی</p>
<p>فارسی است کہ باشہ را گویند و نوعی از واپس کردن ہم متعلق بہ معنی ہفتم کلمہ باز</p>	<p>باز است و آن را بازگی و برگشتن نیز خوانند چنانکہ (باز کردن تیغ) محققین بالا اسناد</p>
<p>مؤلف عرض کند کہ حقیقت باشہ کہ برابے این ہر دو معانی پیش کردہ اند بر</p>	<p>بجائش می آید و درینجا جزین نیست کہ</p>
<p>تصغیر بر کلمہ باز کہ معنی اول اوست۔</p>	<p>کردن طفل از شیر می آید و خیال ما این بہت</p>
<p>زیادہ کردہ اند کہ باشہ باز کو چک را کہ</p>	<p>این مصدر را مرکب کنیم با چیزے و کے۔</p>
<p>گفتہ اند (ارو و) باشہ بقول اصیضہ</p>	<p>(ارو و) (۱) جدا کرنا۔ (۲) کھولنا ہم آرد</p>
<p>فارسی۔ اسم مذکر۔ ایک شکاری پرنکام</p>	<p>باز کردن آغوش مصدر اصطلاحی</p>

۴۶۱۰

<p>پرو دست باز کردہ کے راہ پسند خاطر خود آور وہ اند اندرین صورت باید کہ آغوش گرفتن (باقرکاشی سے) آغوش کلمہ باز را درینجا یعنی چہار و ہمیش گیریم صلح با ہمہ کس باز کردہ ایم پو رویم کشادہ و لیکن خیال با متعلق باشد یعنی ہفتیش چین چینیم نماندہ است (ارو) آغوش بلحاظ معنی بیان کردہ تاکہ بالاند کور شد پھیلا نا۔ آغوش کھولنا۔ بقول امیر گو دین نتیجہ پرو و کی است بصورت اول جدا لینے کو دونوں ہاتھ پھیلا نا (اسیر سے) کردن از گر گیریم و بصورت ثانی واپس برنگ ہالہ دوڑا دل مرا آغوش پھیلا کر کردن تیغ بہ نیام (ارو) تلوار کو کر اسیر اس رخ کا دھوکا ہو گیا کیا ماہ کامل سے جدا کرنا۔ یا کر سے کھولنا یا تلوار کو (سوز سے) تیغ ابرو سے مرے دل کو میان میں ڈالنا۔</p>	<p>پرو دست باز کردہ کے راہ پسند خاطر خود آور وہ اند اندرین صورت باید کہ آغوش گرفتن (باقرکاشی سے) آغوش کلمہ باز را درینجا یعنی چہار و ہمیش گیریم صلح با ہمہ کس باز کردہ ایم پو رویم کشادہ و لیکن خیال با متعلق باشد یعنی ہفتیش چین چینیم نماندہ است (ارو) آغوش بلحاظ معنی بیان کردہ تاکہ بالاند کور شد پھیلا نا۔ آغوش کھولنا۔ بقول امیر گو دین نتیجہ پرو و کی است بصورت اول جدا لینے کو دونوں ہاتھ پھیلا نا (اسیر سے) کردن از گر گیریم و بصورت ثانی واپس برنگ ہالہ دوڑا دل مرا آغوش پھیلا کر کردن تیغ بہ نیام (ارو) تلوار کو کر اسیر اس رخ کا دھوکا ہو گیا کیا ماہ کامل سے جدا کرنا۔ یا کر سے کھولنا یا تلوار کو (سوز سے) تیغ ابرو سے مرے دل کو میان میں ڈالنا۔</p>
<p>لگا ہے دہر کا، جی نکلتا ہے میان کھول بھی باز کردن جا مصدر اصطلاحی یعنی کشادہ کردن جاے باشد کلمہ باز درینجا</p>	<p>لگا ہے دہر کا، جی نکلتا ہے میان کھول بھی باز کردن جا مصدر اصطلاحی یعنی کشادہ کردن جاے باشد کلمہ باز درینجا</p>
<p>آغوش کہین باز کردن تیغ مصدر اصطلاحی یعنی واپس کردن تیغ بہ نیام باشد (ملاو حشی سے) ویدہ رخت گریہ ز منتزل برون فلکن کو ہمہ راکشت بگوئید کہ با خاطر جمع ہوا این سے لب برائے خندہ تو ہم جاے باز کن زمان باز کند تیغ و کم بکشاید پامولف (ارو) جگہ کشادہ کرنا۔</p>	<p>آغوش کہین باز کردن تیغ مصدر اصطلاحی یعنی واپس کردن تیغ بہ نیام باشد (ملاو حشی سے) ویدہ رخت گریہ ز منتزل برون فلکن کو ہمہ راکشت بگوئید کہ با خاطر جمع ہوا این سے لب برائے خندہ تو ہم جاے باز کن زمان باز کند تیغ و کم بکشاید پامولف (ارو) جگہ کشادہ کرنا۔</p>
<p>عرض کند کہ تحقیقی کہ بعد باز کردن ذکر باز کردن چشم کے مصدر اصطلاحی معنی جدا کردن کردہ اند زمین شعر را بستن یعنی کشا دن چشم کے و بصیرت پیدا کردن</p>	<p>عرض کند کہ تحقیقی کہ بعد باز کردن ذکر باز کردن چشم کے مصدر اصطلاحی معنی جدا کردن کردہ اند زمین شعر را بستن یعنی کشا دن چشم کے و بصیرت پیدا کردن</p>

(۵۱۱۸)

(۵۱۱۸)

(۵۱۱۸)

و خبردار کردنش (صائب ۵) اگر نہ نمودین لانا۔

چشم من آن دنواز باز کند و مراد ہر دو باز کردن خاک مردہ (مصدر اصطلاحی)

جہان کسیت بے نیاز کند و بخیاں مؤلف۔ قبر کشادون (سعدی ۵) باندہ ار خاک

کلمہ باز و ریخا یعنی وہم اوست (ارو) مردہ باز کند ہا نشاسی تو انگر از درویش

آنکھین کھولنا۔ بقول امیر غفلت ہے چلتیا۔ (ارو) مردہ پر سے خاک ہٹانا۔ قبر کھولنا

ہوش میں آنا۔ ہوشیار اور خبردار ہونا۔ باز کردن دہن استعمال۔ دہن کشادون

دکن میں (آنکھین کھول دینا) یعنی ہوشیار کہ کلمہ باز و ریخا یعنی وہم اوست (صائب)

کرنا۔ بصیرت عطا کرنا۔ استعمال ہے جیسے (۵) از صدف کم نتوان بود بہ بہت زہنا

انکی نصیحت نے سیری آنکھین کھول دینا کہ دہن باز کنی گو ہر شہوار طلب کا (ارو)

ہجکانا) بقول آصفیہ خبردار کرنا ہوشیار کرنا منہ کھولنا۔

باز کردن خاک از سر خری (مصدر) باز کردن راہ (مصدر اصطلاحی)

اصطلاحی۔ بظہور آوردن و ظاہر کردن چیز جاری کردن راہ و کشادنش و راہ و رسم

بخیاں ماکلمہ باز و ریخا یعنی چہار وہم اوست جاری کردن (انوری ۵) ورتودانی

(انوری ۵) اسے دل ز سر نہا و پرواز کہ رہے باز کنی بہ باشد کہ تا برانیم و سلامی

مکن کہ فرجام مگر حدیث آغاز مکن کہ خاک بکنیم ارتہناست و بخیاں ماکلمہ باز و ریخا

از سر آن راز نہان باز مکن کہ خود را و مرا یعنی وہم اوست۔ (ارو) راستہ کھولنا

و در سر این راز مکن کہ (ارو) ظاہر کرنا۔ راہ و رسم جاری کرنا۔

(۴۱۲۹)

(۴۱۳۰)

(۴۱۳۱)

(۴۱۳۱)

(۲۱۲۱۲)

باز کردن زبان استعمال - زبان باز درینجا بمعنی جداست و متعلق بمعنی چهارم

کشادن (ظهوری سه) زبان چوبازکنم که گذشت (ارو) دوده برپا نماند و کوه گوش باشوند قدح بچوبوصف نرگسنت از شیر بازداشتن -

سخن شراب شده بچخیال ماکلمه باز درینجا **باز کردن عقد** مصدر اصطلاحی

معنی دهم است (ارو) زبان کھولنا بمعنی جدا کردن و مجازاً بمعنی گرفتن عقد

باز کردن سر حیره (مصدر) مخفی سبب و که عقد بالکسر بمعنی سلک آمده

اصطلاحی) بمعنی کشادن سر پوش حیره (مطالعرا) رشوه گوینان عقد ششم را

و کنایه از آغاز کردن و افشامنون است ز رویش باز کرد و شخصه باد صبا گل را چو

و کلمه باز درینجا متعلق باشد بمعنی دهمش با طیل گرفت (ارو) جدا کرنا -

(صائب سه) چون بازکنم من سر طومار (الف) باز کشا اصطلاح - (الف)

شکایت و جانی که خموشی است ز گفتار گرن (ب) باز کشا و بقول جامع قوت و

تر (ارو) شروع کرنا - آغاز کرنا نزلت انسانی و (ب) بقول بحر مرادف باز کردن مؤلف عرض کند که (الف)

باز کردن طفل از شیر مصدر اصطلاحی خلاف قیاس است و صراحت این بجاف

بمعنی بازداشتن طفل از شیر خواری (فارسی می آید و (ب) موافق قیاس و خیال

تکلمه) چو وقت ایام شیر همدنازش بعبادت ماکلمه باز در (ب) متعلق به معنی بست و

و آیه کرد از شیر بازش بچخیال مؤلف دوم است یعنی زائد پس (ب)

(۲۱۲۱۳)

(۲۱۲۱۴)

(۲۱۲۰۵)

<p>معنی کشودن است و بس. و نسبت (الف) مجرول یا زکشیدن) را یعنی نوشتن در اشیا است طالب سند استعمال باشیم (حیاتی گیلانی) تسلیم کنیم که سند استعمال پیش شود. ابو الفضل (ع) ورق چو کار فرو بسته باز کشاید (باز کشیدن فقره) را استعمال کرده است په کتاب که نامش جو بسم عنوان است و صاحب موارد در رست گوید که باز کشیدن (ار و و) (الف) نزلت انسانی قوت فقره یعنی نوشتن باشد و مؤلف شخص انسانی مؤث (ب) کھولنا. فقره هم نه پذیرد بلکه باز کشیدن فقره وسط باز کشیدن (مصدر اصطلاحی) و عبارت و تحریر و امثال آن را به همین معنی بهار و غیاث (۱) یعنی نوشتن - عذابی گیرد و اگر سند مجرول (باز کشیدن) یعنی نوشتن شیخ ابو الفضل در مکاتبات آورده است رقم کردن بدست آید تو انیم عرض کرد در باب باز کشیدن فقره چند قلمی نموده است که معنی لفظی این مکرر کشیدن و و پس کشیدن - النج صاحب بحر فرماید که معنی رقم کردن است متعلق به معنی ششم و هفتم کلمه باز و کنایه است. صاحب موارد نیز در معنی اول گوید از نوشتن که بسیاری از حروف در کتابت که (۲) یعنی زدن و بر کشیدن چنانکه (باز) مکرر کشیده می شود و در کتابت بعضی حروف کشیدن چتر) و صراحت فرماید که باز قلم از روانی معاودت هم می کند چنانکه کشیدن فقره به معنی اول است (النوری) در کتابت یا به مجهول در از و دائره عین (۳) چتر شب و امنست چو یازگشی با خرم و جیم پس مدق قهر است چه کنایه (ار و و) ماه شکرین تو با و مؤلف عرض کند (۱) کلهتا (۲) لگانا - جیه چتری سر پر لگانا</p>	<p>معنی کشودن است و بس. و نسبت (الف) مجرول یا زکشیدن) را یعنی نوشتن در اشیا است طالب سند استعمال باشیم (حیاتی گیلانی) تسلیم کنیم که سند استعمال پیش شود. ابو الفضل (ع) ورق چو کار فرو بسته باز کشاید (باز کشیدن فقره) را استعمال کرده است په کتاب که نامش جو بسم عنوان است و صاحب موارد در رست گوید که باز کشیدن (ار و و) (الف) نزلت انسانی قوت فقره یعنی نوشتن باشد و مؤلف شخص انسانی مؤث (ب) کھولنا. فقره هم نه پذیرد بلکه باز کشیدن فقره وسط باز کشیدن (مصدر اصطلاحی) و عبارت و تحریر و امثال آن را به همین معنی بهار و غیاث (۱) یعنی نوشتن - عذابی گیرد و اگر سند مجرول (باز کشیدن) یعنی نوشتن شیخ ابو الفضل در مکاتبات آورده است رقم کردن بدست آید تو انیم عرض کرد در باب باز کشیدن فقره چند قلمی نموده است که معنی لفظی این مکرر کشیدن و و پس کشیدن - النج صاحب بحر فرماید که معنی رقم کردن است متعلق به معنی ششم و هفتم کلمه باز و کنایه است. صاحب موارد نیز در معنی اول گوید از نوشتن که بسیاری از حروف در کتابت که (۲) یعنی زدن و بر کشیدن چنانکه (باز) مکرر کشیده می شود و در کتابت بعضی حروف کشیدن چتر) و صراحت فرماید که باز قلم از روانی معاودت هم می کند چنانکه کشیدن فقره به معنی اول است (النوری) در کتابت یا به مجهول در از و دائره عین (۳) چتر شب و امنست چو یازگشی با خرم و جیم پس مدق قهر است چه کنایه (ار و و) ماه شکرین تو با و مؤلف عرض کند (۱) کلهتا (۲) لگانا - جیه چتری سر پر لگانا</p>
---	---

(۲۱۱۱)

<p>باز کردن پوست یعنی سلخ است و کلمه باز در اینجا یعنی ہنتم است کہ درین عمل پوست بازمی شود و کند کہ حاصل بالمصدر باز گردیدن است رجعت گیر و از کندیدگی (نوری ۵) یعنی مطلق واپسی و مراجعت عموماً و معنی چونکہ و خصم تو گردن کش اگر شد چه عجب خاص بیان کرده بہار را بدون وجود ہم تو اش باز کنی پوست زتن ہمو چہ چارہ سند استعمال نتوانیم تسلیم کنیم کہ از نظر ما کلام (ارو) پوست آتارنا۔ پوست کھینچنا و بگوش ماخور و طالب سند استعمال با ہم بقول آصفیہ۔ کھال کھینچنا۔ کھال آتارنا و بحث بازگشت بجائے خودش می آید اگلے پادشاہوں کے زمانہ میں ایک سزا۔ و آنچه ترجمہ این در عربی بہ نامے مشککہ آخر تھی جو مجرم کو دیجاتی تھی۔ ذکر کردہ اند صحیح نباشد کس بہ سین مہل باز گرد اصطلاح۔ بہار گوید کہ مراد در آخر آمدہ (ارو) واپسی بہ عاودت بازگشت یعنی عود و مراجعت عموماً و اعادہ باز گرد و اشیدن مصدر اصطلاحی۔ بیماری از بد پریشی یا ہوا زگی خصوصاً یعنی واپس کردن است متعلق بہ معنی و این را با بازی نکش گویند (علی اکبر معمار ہنتم کلمہ باز (ظہوری ۵) و اسے باشی اصفہان ۵) انگس کہ بنفس خود گر باز برنگرداند، جان برب رسیدہ نیروے واروہ با خویش ہمیشہ سوز و در مارا (نوری ۵) تو دوران منصبی واروہ گر خاک شود عدوی و بر باد رود کہ گر خواہی ہر روز گذشتہ باز گردانی ہ</p>	<p>باز کردن پوست مصدر اصطلاحی یعنی سلخ است و کلمه باز در اینجا یعنی ہنتم است کہ درین عمل پوست بازمی شود و کند کہ حاصل بالمصدر باز گردیدن است رجعت گیر و از کندیدگی (نوری ۵) یعنی مطلق واپسی و مراجعت عموماً و معنی چونکہ و خصم تو گردن کش اگر شد چه عجب خاص بیان کرده بہار را بدون وجود ہم تو اش باز کنی پوست زتن ہمو چہ چارہ سند استعمال نتوانیم تسلیم کنیم کہ از نظر ما کلام (ارو) پوست آتارنا۔ پوست کھینچنا و بگوش ماخور و طالب سند استعمال با ہم بقول آصفیہ۔ کھال کھینچنا۔ کھال آتارنا و بحث بازگشت بجائے خودش می آید اگلے پادشاہوں کے زمانہ میں ایک سزا۔ و آنچه ترجمہ این در عربی بہ نامے مشککہ آخر تھی جو مجرم کو دیجاتی تھی۔ ذکر کردہ اند صحیح نباشد کس بہ سین مہل باز گرد اصطلاح۔ بہار گوید کہ مراد در آخر آمدہ (ارو) واپسی بہ عاودت بازگشت یعنی عود و مراجعت عموماً و اعادہ باز گرد و اشیدن مصدر اصطلاحی۔ بیماری از بد پریشی یا ہوا زگی خصوصاً یعنی واپس کردن است متعلق بہ معنی و این را با بازی نکش گویند (علی اکبر معمار ہنتم کلمہ باز (ظہوری ۵) و اسے باشی اصفہان ۵) انگس کہ بنفس خود گر باز برنگرداند، جان برب رسیدہ نیروے واروہ با خویش ہمیشہ سوز و در مارا (نوری ۵) تو دوران منصبی واروہ گر خاک شود عدوی و بر باد رود کہ گر خواہی ہر روز گذشتہ باز گردانی ہ</p>
---	---

(۲۱۱۱)

(ارو) واپس کرنا۔ لوٹانا۔

شودیکے صاحب محاورات ہند نے بھی اسی

بازگردو بہ اصل خود پر حیرت آمیز

فارسی مثل کو اردو میں مستعمل قرار دیا ہے

صاحبان خزینۃ الامثال و امثال فارسی

و محبوب الامثال ذکر این کردہ اندواز

کام وقوع میں آتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو

معنی و محل استعمال ساکت مؤلف عرض

اپنی اصل پر گیا ہے اور یہ کہاوت مثل

کنڈ کہ فارسیان این مثل را بحق کسی زند

زیر بحث کا حقیقی ترجمہ ہے۔

کہ از خانوادہ شرفا نباشد و منصبی رسد

بازگردیدن (مصدر اصطلاحی) بمعنی

و کار ہے بد از و بوقوع آید و این قریب

بمعنی (اصل بد از خطا خطا نکند) باشد

کہ بجایے خودش گذشت و مراد فہم

است (عاقبت گرگ زاوہ گرگ شود)

کہ می آید مخفی مباد کہ کلمہ باز درین مثل

بمعنی ہفتم اوست (ارو) دیکھو میل

بد از خطا خطا نکند، صاحب محبوب الامثال

نے اس فارسی مثل کا اردو ترجمہ یہ ہے

کاتبیہ لکھا ہے اور دکن میں ایسے مواقع

پر کہتے ہیں عاقبت گرگ زاوہ گرگ

(۱) واپس ہوندا (۲) کھلنا۔

(۱) (۲)

متعلق بمعنی ہفتم اوست (ظہوری سے)

زخبت بازگردو پر تو مھر، از و پر تو اگر

بر وزن افتد، (۲) بمعنی واشدن

بجالت اضافت ملہوی عقد و گرہ (صائب

تاقیاست گرمش بازگردو چون

خال، ہر گرا فکر سہ زلف بہم چید بہت

مؤلف عرض کند کہ درینجا کلمہ باز

متعلق بہ معنی دہم اوست (ارو)

واپس ہوندا (۲) کھلنا۔

<p>طرز بیان سترنگ خلاف سند و مقصودش از ستر و گردن ستر و گرفتن باشد و پس چنانکه از سندش پیدا است (ار و و) دیکھو باز گرفتن از پتیری۔</p>	<p>مؤلف عرض کند کہ کلمہ باز و ریجا متعلق بہ بی ششم یا ہفتم اوست (ار و و) پھر رونق حاصل کرنا۔ رونق کو واپس لانا باز گرفتن کے راو پر کے مصدر</p>
<p>باز گرفتن پر وہ از رخ اصطلاحی۔ اعتراض کردن بر کے و باز بہنی دور کردن نقاب از رخ باشد و در اینجا کلمہ باز یعنی چار و ہم اوست و این من وجہ داخل است در مصدر عام (باز گرفتن از چیزے) (علی خرافی)</p>	<p>اصطلاحی۔ اعتراض کردن بر کے و باز بہنی دور کردن نقاب از رخ باشد و در اینجا کلمہ باز یعنی چار و ہم اوست و این من وجہ داخل است در مصدر عام (باز گرفتن از چیزے) (علی خرافی)</p>
<p>نغمہ بر چہرہ خود نغمہ اعجاز گرفت باز گرفتن کنار (مصدر اصطلاحی) بمعنی کشا و ن کنار و کلمہ باز و ریجا متعلق بمعنی وہم اوست (النوری ۵) کنار رحمت گیر باز گیری کا بخرواران فور و غیر</p>	<p>نغمہ بر چہرہ خود نغمہ اعجاز گرفت باز گرفتن کنار (مصدر اصطلاحی) بمعنی کشا و ن کنار و کلمہ باز و ریجا متعلق بمعنی وہم اوست (النوری ۵) کنار رحمت گیر باز گیری کا بخرواران فور و غیر</p>
<p>باز گرفتن مدیح (مصدر اصطلاحی) یعنی واپس گرفتن قصیدہ باشد و کلمہ باز و ریجا متعلق یعنی ہفتم اوست (النوری ۵)</p>	<p>بمعنی مکرر حاصل کردن رونق است یا واپس گرفتن رونق (النوری ۵) باز گیری پس ازین رونق ملک محمود کا و ہر شوریدہ تر و تیرہ تر از زلف ایاز</p>

(۷۸۱۸)

(۷۸۱۸)

(۷۸۱۸)

(۷۸۱۸)

(۷۸۱۸)

تو پسندی کہ روکنی سخنم با چون منی را چون
توئی نظر است با چکنم باز گیرم از تو دست
بہ بندہ را آخر اینقدر بصر است بہ مؤلف
عرض کند کہ این متعلق است بمصدر عام
(باز گرفتن از کسے) کہ گذشت (ار دو)
قصیدہ کا واپس لینا۔
بازگشا اصطلاح۔ بقول برہان و بحر و
ناصری و اندر بضم کاف فارسی و شین
منقطہ دار بالف کشیدہ قوت میزہ انسانی
را گویند مؤلف عرض کند کہ صاحب جامع
ہمیں لغت را بہ کاف عربی یعنی قوت نزلت
انسانی آورده کہ بجایش گذشت بخیاں ما
غلطی کتابت بیش نیست کہ کاف فارسی
را عربی نقل کرده و میزہ را نزلت نوشتہ
بخیاں ما اصل این بازگش کبیر کاف فارسی
است و گش بالکسر بقول برہان قلب
را گویند پس معنی لغتی این با صافت باز
بسوے گش تیز قلب باشد و مراد از
قوت میزہ انسانی و کلمہ باز و رینجا یعنی
سیر و ہم اوست پس این را بزیادت
الف در آخر بازگشا کردند و آنچه محققین
بالاکاف فارسی را بالضم گرفتہ اند نتیجہ
استعمال باشد بعدم واقفیت از ماخذ
(ار دو) قوت میزہ بقول آصفیہ عربی
اسم مؤنث۔ تیز کرنے اور سچاننے کی
قوت جسے سمجھہ۔ فہم۔ بدہ۔ گیان کہتے ہیں
بازگشت اصطلاح۔ بقول بہار و دست
و بحر عجم بفتح کاف فارسی مراد
بازگرو کہ گذشت یعنی (ار دو) و مراد
عموماً و (۲) اعادت بیماری از بدتر
یا ہوازدگی خصوصاً (سیر الزور۔ لامع تخلص
بازگشتی کن تو چون تیر موافی در جہان
با گریجائی میری از بہت گشتگی است
(حاجی محمد جان قدسی در قصہ گریجائی جہان)

<p>بندیدہ گوید (۱) شنیدی بہ گزشتن از اصطلاح سیاق میں بازگشت اُس رقم کا کوہ و دشت ہے کہ بیمار را بد بود بازگشت نام ہے جو بہد خرج لکھی جانے کے بعد پھر واپس ہو کر مؤلف عرض کند کہ حاصل بالمصدر جمع کیجئے۔ (۲) وکن میں بازگشت اُس بازگشتن است کہ معنی واپس آمدن می آید رسم کا نام ہے جو دو لٹا بعد نکاح و لکن و تحقیق ما (۳) در اصطلاح سیاق رقمی است کو لئے ہوئے اپنے گھر واپس ہوتا ہے (۵) پھر خرج شدہ کہ واپس گرفتہ باز در حساب جمع واپس ہوا۔ لوٹا۔ (ماضی مطلق) می کنند و (۴) باین ہند رسمی است در بازگشتن مصدر اصطلاحی بقول بحر عروسی کہ واما در با عروس واپس بخانہ خود (۱) بمعنی مراجعت کردن (صائب ۵) میرسد چنانکہ ما گفته ایم (۲) بموجب بیت جا کی نیروی کہ دل بد بگمان من ہا تا بازگشتن باین ہند و اما وی ہا کہ شب نہفتہ رود صبح تو بعد جانیر و وہا (النوری ۵) القصہ سفر از آید ہا چہ بازگشت عروسی کہ بازگشت بازگشت ہم آمد بخانہ زود ہا در باز کرد و ہا ہا خوش است ہا کہ یک بخرج و مضاعف بہبت از بس استوار ہا مؤلف عرض جمع باز آید ہا و (۵) ماضی مطلق است از کند کہ کلمہ باز در اینجا متعلق بہ معنی ہنتم مصدر بازگشتن (ار و و) (۱) بازگشت اوست۔ و تحقیق ما (۲) بمعنی کنارہ کردن بقول آصفیہ۔ فارسی۔ اسم مؤنث۔ و لہذا و این متعلق است با معنی چار و ہم کلمہ باز مراجعت۔ اعادت۔ (۲) بد پرینری کی (النوری ۵) از خدمت فرخندہ تو باز و جب سے مرض رفع شدہ کا عمو کرنا (۳) ہا ہرگز کہ ز شریف توشان بر اثر آمد ہا و (۴)</p>	<p>بندیدہ گوید (۱) شنیدی بہ گزشتن از اصطلاح سیاق میں بازگشت اُس رقم کا کوہ و دشت ہے کہ بیمار را بد بود بازگشت نام ہے جو بہد خرج لکھی جانے کے بعد پھر واپس ہو کر مؤلف عرض کند کہ حاصل بالمصدر جمع کیجئے۔ (۲) وکن میں بازگشت اُس بازگشتن است کہ معنی واپس آمدن می آید رسم کا نام ہے جو دو لٹا بعد نکاح و لکن و تحقیق ما (۳) در اصطلاح سیاق رقمی است کو لئے ہوئے اپنے گھر واپس ہوتا ہے (۵) پھر خرج شدہ کہ واپس گرفتہ باز در حساب جمع واپس ہوا۔ لوٹا۔ (ماضی مطلق) می کنند و (۴) باین ہند رسمی است در بازگشتن مصدر اصطلاحی بقول بحر عروسی کہ واما در با عروس واپس بخانہ خود (۱) بمعنی مراجعت کردن (صائب ۵) میرسد چنانکہ ما گفته ایم (۲) بموجب بیت جا کی نیروی کہ دل بد بگمان من ہا تا بازگشتن باین ہند و اما وی ہا کہ شب نہفتہ رود صبح تو بعد جانیر و وہا (النوری ۵) القصہ سفر از آید ہا چہ بازگشت عروسی کہ بازگشت بازگشت ہم آمد بخانہ زود ہا در باز کرد و ہا ہا خوش است ہا کہ یک بخرج و مضاعف بہبت از بس استوار ہا مؤلف عرض جمع باز آید ہا و (۵) ماضی مطلق است از کند کہ کلمہ باز در اینجا متعلق بہ معنی ہنتم مصدر بازگشتن (ار و و) (۱) بازگشت اوست۔ و تحقیق ما (۲) بمعنی کنارہ کردن بقول آصفیہ۔ فارسی۔ اسم مؤنث۔ و لہذا و این متعلق است با معنی چار و ہم کلمہ باز مراجعت۔ اعادت۔ (۲) بد پرینری کی (النوری ۵) از خدمت فرخندہ تو باز و جب سے مرض رفع شدہ کا عمو کرنا (۳) ہا ہرگز کہ ز شریف توشان بر اثر آمد ہا و (۴)</p>
---	---

(۱۲۱۱) (۱۲۱۲)

(۱۲۱۱) (۱۲۱۲)

(۱۵۱۱)

بمعنی دیگر بار شدن و مکرر شدن متعلق	چیت پگفت انصاف است و بخشش
بامعنی ششم کلمہ باز (الوری ۵) پیش	عادوت طغرل تکین پ (ولہ ۵) رائے
ازین عمری بیاد عشق او بر وادہ اسم پ باز	اعلاے آن و عالی این پ کز خرد نیست
گشتم عاشق دیدار او تدبیر چیت پ (ورد ۴)	باز گفتن نام پ (ولہ ۵) نہ پیغامش از
بمعنی کشاوه شدن متعلق معنی و ہم کلمہ باز	حال دل باز گویم پ کس از من نیاید کہ تا
و سندان از کلام منوچہری ہمد را بخاند کور	در نیاید پ (ب) بقول آصفی سخن گفته
شد (ار و و) (۱) واپس ہونا۔ (۲) کنا	را اعادہ کردن صاحب غیث گوید کہ
کرنا۔ باز آنا (۳) پھر ہونا۔ جیسے پھر عاشق	بیان کنندہ و صاحب بحر بذیل (باز گوئی)
ہونا (۴) کھلنا۔	نسبت این ہمزبان غیثات و صاحب انند
دالف، باز گفتن	مصدر اصطلاحی۔ فرماید کہ سخن گفته را باز گفتن بہار ذکر آ
(ب) باز کو	صاحب آصفی ذکر کردہ و بہ تعریف این زحمت نبرودہ۔
دالف) کردہ از معنی ساکت مؤلف گوید	مؤلف عرض کند کہ محققین بالاجرائی
کہ (۱) دیگر بار گفتن و اعادہ سخن کردن	گویند کہ (۱) حاصل بالمصدر (دالف)
متعلق معنی ششم کلمہ باز (ورد ۴) تصریح	و (۲) امر حاضرش و (۳) اسم فاعل تریجا
کردن و کشاوه گفتن و جا دار و کہ دینجا	بہر دو معنی (دالف) (صائب ۵) بخت
کلمہ باز را متعلق معنی و ہمیش گیریم (انورجا)	شہبائے می خواران نزار و باز گو پ چون
(۵) باز گفتم عادت طغرل تکین در ملک	از مجلس می روی بیرون لب پیمانہ باش پ

<p>رشدی گوید کہ بازگونہ لغتی است در بازار بہ زائے تازی یعنی دیگرگونہ و برگشتہ و برگشتہ از باز یعنی دیگرگونہ یعنی روش لغتی برگشتہ روش۔ و خود خان آرزو فرماید کہ معنی تری کردہ رشدی برائے بازگونہ بہ زائے تازی است و این برائے بازگونہ بزائے بکارنی آید مگر آنکہ گوید کہ زائے تازی تبدیل یافتہ۔ تبدیل این دو حرف ویدہ نشد پس صحیح است کہ (بے ملاحظہ معنی ترکیبی این الفاظ) یعنی قلب و برگشتہ آمدہ و باسگون تبدیل بازگون است و نیز تبدیل آن نیز تبدیل آن و واژگون محققش ازینجاست کہ لفظ آرون بہ رے مہلہ نیز بدین معنی ملاحظہ لانکہ بہ تبدیل رے مہلہ وزائے معجمہ باہم یکس قائل ہی شود و نظیر آن نیز بنظر نیامدہ و در جہانگیری واژگونہ و واژونہ بمعنی نخس و شوم نیز</p>	<p>معنی مباد کہ در مصرع اول (مذار و بارگو) یعنی لائق گفتن نیست۔ و لائق اظہار و افتا نباشد (شرط اظہار را باہامیہ) از رنگینی معانی چار سوے صفحہ بجدول بازگوئے (ارو) (الف) (۱) پھر کہنا۔ مگر کہنا کہی ہوئی بات کا اعادہ (۲) ظاہر کرنا۔ صراحت کے ساتھ کہنا (ب) (۱) اعادہ قول۔ اظہار۔ مذکر۔ تصریح۔ مؤنث (۲) پھر کہ۔ ظاہر کر۔ صراحت کر (۳) اعادہ قول کرنے والا۔ پھر کہنے والا صراحت کرنے والا بازگون اصطلاح۔ بقول اندر بحوالہ فرنگ فرنگ لغت فارسی است بمعنی واژگون۔ صاحب شمس ہم ذکر این کردہ۔ خان آرزو در (سراج) گوید کہ بازگون و بازگونہ۔ باسگون و باسگونہ۔ و آژگون و واژگونہ۔ و واژون ہر ہفت لغت برائے فارسی مقلوب و سرنگون و بحوالہ</p>
--	--

آورده (انج) مؤلف عن کند کہ فارسی حذف شد چنانکہ واژگون و واژون
 تبدیل زائے فارسی بازائے عربی بابا ^{عکس} مخفی سبب کہ قواعد تبدیل حروف بیان
 آن دیده ایم و مقتضین فارسی اعتراف کرده مقتضین فارسی یعنی بر لغات فارسی
 این کرده اند چنانکہ آزیرو و آزیریس علی و دریافت حقیقت ماخذ است چون
 نیست کہ بازگون را اصل گیریم و واژگون نظر تبدیل حروف بدست آید و دیگر چه باب
 را (کہ می آید) مبدلش و واژون بدون باقی حالی بازگون معنی مقلوب و سرگون
 کاف فارسی مختلف آن و بازگونه و واژگون و بالعکس متحقق است (مدرالدین چاچی
 زیادت ہائے نسبت یا زائد فرید علیہش (۵) بازگونست جملہ کار جهان بہ تاجدی
 و باسگون و باسگونه مبدل بازگون و کہ ماورائے حد است (۶) (اردو)
 بازگونه کہ تبدیل زائے ہوز بہ سین مہملہ واژون بقول آصفیہ فارسی۔ اونڈا
 ہم آمدہ یا بالعکس آن ہم چنانکہ ایاز و ایازا۔ سرگون۔ برگشتہ۔ نامبارک۔ مخوس۔
 و ہرمز و ہرس و سمار و غ و زمار و غاٹا۔ معکوس۔ بالعکس۔ بقول آصفیہ۔
 و آنچه و آرون و وارونہ کہ بہ رائے آٹا۔ برخلاف۔ برعکس۔
 مہملہ بہ ہمین معنی می آید مبدل و مختلف باز ^{گون} بازگونه اصطلاح۔ صاحب سروری
 و بازگونه کہ موجدہ بدل شد بہ واو چنانکہ این را مرادف (باشگونه بہ شین معجمہ)
 آب و آووزائے ہوز بدل شد بہ رائے گفتمہ و بقول ناصر مرادف و واژگونه
 مہملہ چنانکہ انیزان و انیران و کاف و باشگونه۔ خان آرزو در سراج بدلی

<p>بازگون ذکر این کرده و ما حقیقت باخذ چاچی سے) از یکی بازگونہ کیش ہما تک با این را ہمدرا بخا عرض کرده ایم۔ صاحب گل درین پنجہ است و نیم صداست و سفرنگ بشرح (مانہ شت ساسان چپ نہادند عقد نہہ صدر ایا راست سخت) گوید کہ بمعنی خلاف و عکس است گیش نہہ صد و نو دست ہا (ارو و) چنانکہ (فقہ) پس ہر گاہ یکی آہنگ پر توہ بالعکس۔ و یکو بازگون۔ کند و دیگرے خواست بازگونہ آن۔ باز گویہ اصطلاح۔ بہار ذکر این کرد اگر کام ہر دو شود گرد آمدن دو و شمیر از معنی ساکت۔ صاحب اند خوب است۔ صاحب سفرنگ شرح کند تحقیق کردہ کہ بمعنی ظہوری گفتمہ مقصود کہ ہر گاہ ازین دو خدا یکی قصد کند چیزی خبرین نباشد کہ بمعنی کہ ظہوری استعمال را و خداے دیگر ارادہ خلاف آن کند این کردہ است (ظہوری سے) زانتما یعنی یکی وجود چیزی خواهد و دیگری عدم کلام تو گوش گوہر حسین ہا باز گویہ نام آن پس اگر ارادہ ہر دو ظاہر شود و اجابا تو منطق شکر خانہ مولف عرض کند کہ تقیضین یعنی فراتہی وجود با عدم لازم باز گوی کہ می آید حاصل بالمصدر ہا آید و این خود محال است (انتہی)۔ است یعنی اعادہ سخن پس بخیاں ہا مولف عرض کند کہ ما حقیقت باخذ این ہمین لفظ باز گوی درین شعر ظہوری است را ہر بازگون عرض کردہ ایم و این مزید کہ تصحیف کاتب گوی را گویہ کرد و اللہ است زیادت ہائے ہوز (مدرا لیدین اگر استعمال این متحقق شود تو انیم عرض کرد</p>	<p>بازگون ذکر این کرده و ما حقیقت باخذ چاچی سے) از یکی بازگونہ کیش ہما تک با این را ہمدرا بخا عرض کرده ایم۔ صاحب گل درین پنجہ است و نیم صداست و سفرنگ بشرح (مانہ شت ساسان چپ نہادند عقد نہہ صدر ایا راست سخت) گوید کہ بمعنی خلاف و عکس است گیش نہہ صد و نو دست ہا (ارو و) چنانکہ (فقہ) پس ہر گاہ یکی آہنگ پر توہ بالعکس۔ و یکو بازگون۔ کند و دیگرے خواست بازگونہ آن۔ باز گویہ اصطلاح۔ بہار ذکر این کرد اگر کام ہر دو شود گرد آمدن دو و شمیر از معنی ساکت۔ صاحب اند خوب است۔ صاحب سفرنگ شرح کند تحقیق کردہ کہ بمعنی ظہوری گفتمہ مقصود کہ ہر گاہ ازین دو خدا یکی قصد کند چیزی خبرین نباشد کہ بمعنی کہ ظہوری استعمال را و خداے دیگر ارادہ خلاف آن کند این کردہ است (ظہوری سے) زانتما یعنی یکی وجود چیزی خواهد و دیگری عدم کلام تو گوش گوہر حسین ہا باز گویہ نام آن پس اگر ارادہ ہر دو ظاہر شود و اجابا تو منطق شکر خانہ مولف عرض کند کہ تقیضین یعنی فراتہی وجود با عدم لازم باز گوی کہ می آید حاصل بالمصدر ہا آید و این خود محال است (انتہی)۔ است یعنی اعادہ سخن پس بخیاں ہا مولف عرض کند کہ ما حقیقت باخذ این ہمین لفظ باز گوی درین شعر ظہوری است را ہر بازگون عرض کردہ ایم و این مزید کہ تصحیف کاتب گوی را گویہ کرد و اللہ است زیادت ہائے ہوز (مدرا لیدین اگر استعمال این متحقق شود تو انیم عرض کرد</p>
--	--

<p>کہ از اہل زبانست بذکر معنی اول بحوالہ بہاے تہوز بدل شد چنانکہ خوے و خوہ۔ بر ہان فرماید کہ اما انچہ از سیاوہ عبارت اصل و ساتیر معلوم می شود کہ در نامہ زردشت در ترجمہ فقرہ یکصد و ہودہ (۲) اعتراض و سرزنش و توبیخ خواہد بود کہ عبرتی مؤاخذہ گویند و معنی با پرس نیز همین یعنی ایراد گرفتن۔ صاحب گوید کہ معنی اعتراض و منقص کلام کسے و۔۔۔۔۔</p>	<p>کہ مبدل بازگونی است کہ تختانی آخرہ و دیکھو بازگونی۔ استعمال۔ بقول وارستہ و بکر مؤلف عرض کند یعنی (۲) خبرین نہا شد کہ است و بس۔ حاصل بالمصد کہ بجا ایش گذشت۔ (منظیری باشد بر دم</p>
<p>(ب) بازگیر وار بمعنی اعتراض گفتہ و در سیاوہ اور وہ کے بازگیر وار در پایہ سرزنش بحوان شیر کہ بیگناہ کشتن و بدائینی و کام و خشم ستانی جانوران از مردم بکر یا در گفتہ صاحب سفرنگ صراحت کہ معنی روباه بدین قصہ اعتراض کردہ (الخ) مؤلف عرض کند کہ الف</p>	<p>برون زونیا کچ دل پر ہزار حسرت (ار و و) دیکھو بازگو کہ پہلے معنی۔ اصطلاح۔ بقول ہوز بر وزن باؤ و تاریخ و مورخ در سراج فرماید صاحب ناصر گفت</p>

امر حاضر است از (باز گرفتن) کہ بہ معنی یعنی معترض اسم فاعل ترکیبی باشد لغت
 واپس گرفتن است و (۱) اسم فاعل ترکیبی ترند و پارنا است و بس (ار و و) بالف
 است یعنی کسی کہ حالات گذشتہ را باز (۱) سوخ - بقول آصفیہ - عربی - اسم مذکر
 بقلم آرد و سوخ باشد حیف است کہند - تاریخ لکھنؤ والا - وقایع نویس - صاحب
 استعمال پیش نشد و لیکن قول صاحب جامع تاریخ - تاریخ نگار - اہل سیر - (۲) اعتراض
 کہ از اہل زبانست و رخور اعتبار باشد - بقول امیر عربی - مذکر - نکتہ چینی (ناصر
 آنچه خان آرزو این را برائے مہلہ گرفتہ سے) ہونی کلام کی اصلاح نکتہ چینی سے
 خیال محض است و ویلی نڈار و و بر ہند پڑا سلوک کیا جس نے اعتراض کیا پڑا
 توجہ نہی نگار و و از تحقیق فارسی زبان معترض بقول آصفیہ - عربی - اسم مذکر -
 کسی با اونیت و از معنی دوم بیان کردہ اعتراض کرنے والا - گرفت کرنے والا -
 صاحب ناصری (اعتراض) را پسند کنیم **بازمان** اصطلاح - بقول برہان و
 کہ موافق قیاس است و تصدیق این جامع و بحر و ناصری بروزن آسمان (۱)
 معنی از بیان صاحب سفرنگ ہم می شود بمعنی توقف و (۲) امر پند معنی ہم یعنی موافق
 کہ جو الہ و ساتیر ذکرش کردہ پس حاصل با **بازمان** اصطلاح - صاحب سفرنگ جو
 است و کنایہ باشد از ایراد و اعتراض **مقرہ شصت و ہشتم** و ساتیر فرماید کہ با
 و کلمہ باز و ریجا بمعنی پانزدہم اوست مؤحدہ بالف و زائے مجہد و سیم بالف و
 و (ب) یعنی ایراد و اعتراض وارندہ **نون** یعنی (۳) وابستہ و متعلق (چنانکہ

<p>(مصدر اصطلاحی) باز ماندن (الف)</p>	<p>رقعہ وساتیر) چه روان کردن نام بر گوهر</p>
<p>باز ماندہ (ب) صاحب آصفی</p>	<p>یا بگزارش کفینی نمیتی است اورا نام گوهر</p>
<p>باز ماندن (الف) کرده از معنی ساکت مؤنث</p>	<p>گویند مانند پاک یا بگزارش کفینی است</p>
<p>باز ماندن و کلمہ باز</p>	<p>ہستانی کہ دریافت او برد یافت جرش</p>
<p>در پنجامن وجہ متعلق یعنی چہار دہم بند</p>	<p>بازمان نیست اورا نام فروزہ خوانند</p>
<p>فرماندن و</p>	<p>چون زندہ یا بگزارش کفینی است ہستانی</p>
<p>عاجز آمدن و کلمہ باز در پنجامن وجہ</p>	<p>کہ دریافت او باز بان بدر یافت جزاوست</p>
<p>متعلق یعنی یازدہم (النوری س)</p>	<p>آنرا نام کردار خوانند چنانکہ آفرینندہ</p>
<p>باز ماندن در غم تیمار او تدبیر صحت</p>	<p>مؤلف عرض کند کہ یعنی اول مجال بہ صحت</p>
<p>باز گشتم عاجز اندر کار او تدبیر صحت</p>	<p>مصدر (باز ماندن) و یعنی دوم امر</p>
<p>باز ماندن از چیزے یعنی ناکام</p>	<p>حاضر مصدر مذکور کہ می آید و یعنی سوم</p>
<p>و محروم و محترم ماندن از ان و در پنج</p>	<p>اسم جامد ژند و پائر یعنی فارسی قدیم است</p>
<p>باز متعلق یعنی چہار دہم اوست</p>	<p>(ارو) (۱) توقف - بقول آصفیہ - کلمہ باز متعلق</p>
<p>از تماشای بازمانم گرمین از</p>	<p>عربی - اسم مذکر - دیر - وقفہ - ڈھیل</p>
<p>بازمانم گرمین از</p>	<p>صبر - تامل - تحمل - تاخیر - (۲) تہر توقف</p>
<p>بازمانم گرمین از</p>	<p>کر (۳) وابستہ - بقول آصفیہ - فارسی - کم کفتم</p>
<p>بازمانم گرمین از</p>	<p>بند ہوا - پیوستہ - متعلق - از قول پریشان بازمانم گرمین</p>

(۲۱۵۱)

(۲۱۵۲)

(۲۵۱۲)

دیوانہ مرغ بے محل گویم ہنوز ہا و (۳) باز و محروم ہم (النوری سے) ولیکن از بدین	ماندن زبان و وہان یعنی کشادہ ماندش ملک ریگ نیست چنان ہا کہ خدمت تو کند
و کلمہ باز و ریجا متعلق بہ معنی وہم اوست جان باز ماندہ کجاست ہا و این متعلق بہ معنی	(ظہوری سے) چون گل سو فار و رخویش سوم (الف) (ار و و) (الف) (۱) باقی
زیانم باز ماند ہا تا خذنگت غنچہ دل را رہنا بچنا۔ (۲) عاجز آنا (۳) ناکام رہنا	بہ پیکان برگرفت ہا (النوری سے) باوام محروم رہنا محترز رہنا۔ باز رہنا۔ (۴)
وار چشم سو و تو آژدہ ہا و ز نالہ باز ماندہ کہلار بچانا (ب) (۱) بچا ہوا (۲) جدا محروم	و ہان بچو پستہ با و ہا و (ب) اسم مفعول الف بازن اصطلاح بقول انڈس جوارہ و فرنگ
بقول بہار (۱) واپس ماندہ از طعام و طعمہ فرنگ مراد ف بازن و پائرن بہ باسے فار	و خزان۔ مؤلف عرض کند کہ چرا گلویم کہ و زاسے فارسی (۱) بمعنی دیوٹ یعنی کسی کہ
باقی ماندہ و پس ماندہ باشد و این معنی بہتر از خود را بدگیران و ہا و (۲) بے حیثیت	از واپس ماندہ۔ صاحب سفرنگ بشرح و بے عزت مؤلف عرض کند کہ فارسیان
(فقہہ صد و ہفتدہم و ساتیر) ہم ذکر این کہ این را قلنبان و کس کش و زن جلب و	و بہمن معنی آوردہ پس این متعلق باشد بمعنی قربان و تیر آورد و عبری دیوٹ و بہ ترکی
اقل (الف) (سنجر کاشی سے) افتاد و فرساق گویند مؤلف عرض کند کہ معنی اول	چو از نظر او اجل رہود ہا کہ باز ماندہ بہ حقیقی است و معنی دوم مجاز آن و وجہ
عتیا و میرسد ہا و بہ تحقیق ما (۲) جدا افتادہ بازن عزیزین نباشد کہ کسے کہ زن خود بدید	

سپر و خود ہم با او باشد کلرہ با بمعنی معیت گوید کہ ما تصبیفہ این بر معنی اول و دوم
 است و بس حیف است کہ سداستعمال پیش و پنجم و ششم (بار نامہ) کردہ ایم کہ ہر
 شد تحقیقین فارسی زبان بر زبان نڈارند ہرگز کہوم گذشت و سیا بر معنی پنجم پیش بیان
 و معاصرین عجم ساکت پازن و پازن اگر ما خدیم بخیاں ما (بار نامہ) ہرے ہوز
 بدین معنی تحقق شود جزین نیست کہ سبذل متبدل (با جنامہ) باشد کہ باج بقول
 پازن باشد کہ موحدہ بہ باسے فارسی وزاسے صاحب کتر بمعنی امیری است و نامہ امیری
 ہوز ہرے فارسی بدل شود چنانکہ تب و تب کنایہ باشد از لقب نیک و تفاخر و جاودا
 و آزیرو آزیرو (ارو) (ا) و یوش کہ (بار نامہ) رامبتدل پاجنامہ گیریم کہ
 عربی۔ اسم مذکر۔ قلبان۔ بھر و اقرسا بہ باوجیم فارسی بمعنی لقب می آید باسے
 وہ شخص جوانی عورت کے افعال قبیحہ فارسی بعربی بدل شود چنانکہ اسپ و اسپ
 واقف ہو کر چشم پوشی اور اغماض کرے و وجیم عربی و فارسی را بہ زاسے ہوز بدل
 آدمی جوانی اہل پر حیا کرے۔ (۲) بی حمتی کنند چنانکہ سوج و سوز و پچنگ و پزنگ
 بی غیرت۔ بی شرم۔
 بار نامہ اصطلاح۔ بقول شمس لقب (ارو) و کیو بار نامہ کے پہلے اور دو
 نیک کہ باوے تفاخر کنند و نیز تفاخر کرنا اور پانچویں اور چھٹے معنی۔
 و منت نہادن۔ صاحبان اندو غیاث باز شرح اصطلاح۔ بقول شمس با باسے
 پر اسباب و بکل و منت و تفاخر قانع ہوا۔ آزی و وجیم فارسی رسنے دو تاکہ بیا و نیز

وچگان و دختران و ران نشینند و می چنند
 و بازی کنند و گیر کے از تحقیقین فارسی
 ذکر این نکر و مؤلف عرض کند کہ (بازوچ)
 بنون چهارم و تختانی پنجم بہ معنی می آید
 و ہمیں معنی بر معنی سوم (بازوچ) ہم گشت
 کہ بہ بے فارسی چهارم و تختانی پنجم و جیم فارسی
 بجایش مذکور شد۔ پس اگر سداستعمال بازی
 بدست آید تو انیم عرض کرد کہ مخفف (بازوچ) بازی
 است کہ تختانی پنجم حذف شد و الاخرین کنایہ از سرکاری و حیالی و صاحب بحر
 نباشد کہ تصحیف کاتبین شمس گیریم بکلمہ باختن ذکر این کردہ مؤلف عرض کند کہ
 تحقیق معنی و ماخذ این بر بازوچ گذشت
 (ارو) دیکھو بازوچ کے تیسرے معنی۔
 بازی و استن | مصدر اصطلاحی بقول
 بہار یعنی فرق نکردن میان دو چیز صفا
 اتند و آصفی نقل نگارش۔ صاحب بحر می آید (ارو) سرکاری بقول آصفیہ
 فرق نکردن۔ قانع (بہرامی ۵) خرنخ اسم مؤنث۔ فریب۔ و غا بازی۔ عیاری۔
 و تیرہ آب ندیم و ران زمین ہا تھا کہ پہنچ دہو کے بازی۔ چالاکی۔

<p>مازندرہ اصطلاح - صاحب اندکجوالہ (۲) باز نمودن ذکر (۱) کردہ فرماید کہ</p>	<p>مازندرہ اصطلاح - صاحب اندکجوالہ (۲) باز نمودن ذکر (۱) کردہ فرماید کہ</p>
<p>فرنگ فرنگ گوید کہ کبیر زائے عجمہ (۱) یعنی</p>	<p>فرنگ فرنگ گوید کہ کبیر زائے عجمہ (۱) یعنی</p>
<p>بازی کنندہ و (۲) نوعی از کبوتر دیگر کے</p>	<p>بازی کنندہ و (۲) نوعی از کبوتر دیگر کے</p>
<p>محققین فارسی زبان ذکر این نکر و معاصرین</p>	<p>محققین فارسی زبان ذکر این نکر و معاصرین</p>
<p>عجم این را بصفت کبوتر سے تسلیم کنند کہ در آن سخن ز می من فر و فرستادے ہوئے</p>	<p>عجم این را بصفت کبوتر سے تسلیم کنند کہ در آن سخن ز می من فر و فرستادے ہوئے</p>
<p>عالم پر و از بازی کنند یعنی دور زند و این عرض کنند کہ حاصل بالمصدر (۲) باشد</p>	<p>عالم پر و از بازی کنند یعنی دور زند و این عرض کنند کہ حاصل بالمصدر (۲) باشد</p>
<p>قسم کبوتر را اہل ہند گرہ باز گویند مجرد (باز) یعنی اوشاہم و (۲) یعنی ظاہر کردن و تفصیل</p>	<p>قسم کبوتر را اہل ہند گرہ باز گویند مجرد (باز) یعنی اوشاہم و (۲) یعنی ظاہر کردن و تفصیل</p>
<p>یعنی دوم نہ شنیدیم بالجلد یعنی اول ہم فاعل و تشریح نمودن و اوشا کردن است مخفی ہوا</p>	<p>یعنی دوم نہ شنیدیم بالجلد یعنی اول ہم فاعل و تشریح نمودن و اوشا کردن است مخفی ہوا</p>
<p>بازیدن است کہ می آید و یعنی دوم شرط کہ کلہ باز درینجا متعلق یعنی دہم اوست</p>	<p>بازیدن است کہ می آید و یعنی دوم شرط کہ کلہ باز درینجا متعلق یعنی دہم اوست</p>
<p>وجود سند مجاز آن (ار و و) (۱) بازی (انوری سے) زیدار رفردل و سہ ہوا</p>	<p>وجود سند مجاز آن (ار و و) (۱) بازی (انوری سے) زیدار رفردل و سہ ہوا</p>
<p>کرنے والا۔ (۲) گرہ باز۔ بقول آصفیہ۔ دل خویش و پیش تو باز نمایم بطریق اعجاز</p>	<p>کرنے والا۔ (۲) گرہ باز۔ بقول آصفیہ۔ دل خویش و پیش تو باز نمایم بطریق اعجاز</p>
<p>وہ کبوتر جو بکند پر چڑھ کر کلا باز یاں کھائے</p>	<p>وہ کبوتر جو بکند پر چڑھ کر کلا باز یاں کھائے</p>
<p>(معروف سے) گوگرہ باز میں کبوتر اشک</p>	<p>(معروف سے) گوگرہ باز میں کبوتر اشک</p>
<p>پو پرائخون کی آڑ ان کچھ بھی نہیں بلاذوق</p>	<p>پو پرائخون کی آڑ ان کچھ بھی نہیں بلاذوق</p>
<p>(۵) کھائیں کبوتر ان گرہ باز کی طرح</p>	<p>(۵) کھائیں کبوتر ان گرہ باز کی طرح</p>
<p>سینہ سے آن کر سر و دوش ہوا گرہ</p>	<p>سینہ سے آن کر سر و دوش ہوا گرہ</p>
<p>(۱) باز نمودن اصطلاح - صاحب سفر</p>	<p>باز بہ نیام شدن است بحث این بر معنی</p>

ہمدرا بخاند کور (ار و و) میان میں الیہونا
 بائیںچ اصطلاح - صاحبان برہان
 جامع این را بہ نون چہارم و تختانی پنجم و
 جیم فارسی در آخر معنی ریمانی نوشتہ اند
 کہ در ایام عید و جشن از جانی آویزند و
 زمان و دختران بران نشستہ در میو آیند
 و روند صاحب جہانگیری بذکر این معنی -
 فرماید کہ این را اورک و کاز و بلو و بلو کہ
 نیز گویند و از کلام شمس فخری استناد کنند
 کہ بر بائیںچ گذشت و در مصرع دوش
 بائیںچ را کہ بہ بائے فارسی چہارم بود و
 بہ نون چہارم نقل کردہ مد العجب حہ
 در نقل اشعار اساتذہ راہ یافتہ بائی حال
 بائیںچ گیریم یا بائیںچ بہر دو صورت
 این معنی بکار نمی خورند بلکہ متعلق است بہ
 معنی چہارم بائیںچ کہ رسن بائیںچران
 با صراحت معنی و ماخذ این بر بائیںچ
 کہ بہ بائے فارسی چہارم گذشت (ار و و)
 و بکھو بائیںچ اور بائیںچ کے تیسرے معنی
 جس پر اس کا تفصیلی بیان ہے۔

باز و بقول صاحب صنیدہ برہان (۱) از دوش نامرق دست و عبری بال گویند
 و (۲) ہر یک از دو چوب و طرف دروازہ خانہ صاحب رشیدی بذکر معنی اول
 و ترک معنی دوم گوید کہ (۳) مجازاً شاخ درخت را گویند و (۴) عصا و چوب دست
 کہ گویا بازوی آدمی است خان آرزو در سراج بذکر معنی اول نسبت سوم و چہارم
 فرماید کہ مجاز معنی اول باشد و ظاہر آرزو و بازہ ہر دو یکی است کہ واو و ہا
 برائے نسبت می آید بہاں بذکر معنی اول و دوم گوید کہ بازوان جمع این و توانا و شورت
 از صفات اوست (شیخ شیراز ۱۵) بازوان توانا و قوت سردست و خطاست

پنجہ مسکین ناتوان شکست و وارثہ تبرک کل معانی بالادہ (بمعنی قوت و استعداد آوردن)
 (شعانی ۵) اسے دل باین قرار من لاف عاشقی و بازومی یک نگاہ نذار و کسب تو
 (ظہوری ۵) بازومی زری ضرور دارم پاشاید کہ بان کرد آید صاحب
 سخندان گوید کہ در سنکرت بازو را بمعنی اول باہو گویند و در فارسی زبان ہم
 باہو یہ معنی آمدہ مؤلف عرض کند کہ شک نیست کہ باہو بقول برہان بمعنی
 بازومی آید و بقول ساطع باہو بر وزن آہ بزبان سنکرت (مؤنث) بازو و جا
 دارد کہ در فارسی زبان باہو را تبدیل بازو گیریم کہ زانے ہوتے بہ ہائے ہوتے
 بدل شود چنانکہ کوز پشت و کوه پشت و براز و براہ و عجیبی نیست کہ فارسیان
 باہو را از زبان سنکرت گرفتہ باشند ولیکن یہ تحقیق ما بازو اصل است و مرکب
 از بازو بمعنی ہند ہمیش کہ طرف و جانب باشد و آونبت در آخرش مرکب کردند
 کہ معنی نقلی این منسوب بطرف و جانب انسان باشد و کنایہ از عند پس معنی دوم مجاز
 این کہ ہر یک پارہ دراز و پارہ اش یک طرف دُر باشد کہ در عربی مصلح ہا
 دارد و بفارسی تختہ در ہم و چین معنی سوم ہم مجاز معنی اول کہ ہر شاخ ہم یک
 طرف درخت می باشد و ہم برین قیاس است معنی سوم کہ عصا را فارسیان بازو
 گفتند کہ در یک دست معین صاحب عصا است و معنی پنجم ہم بر سبیل مجاز تو
 گرفت کہ از طرف منظوف مراد گرفتند یعنی قوت و استعداد را ہم بازو گفتند و
 این ہمہ معانی در مطحات می آید (ارزو) (۱) بازو بقول آصفیہ فارسی

اسم مذکر۔ ڈنڈ۔ پہنچا۔ کہنی سے شانہ تک کا حصہ۔ عھند (۲) پٹ۔ بقول آصفیہ۔ اسم
مذکر۔ کوڑا۔ تختہ در۔ (۳) شاخ۔ فارسی۔ اسم مؤنث۔ ٹہنی۔ ڈال۔ ڈالی۔ (۴)
عصا۔ بقول آصفیہ۔ عربی۔ اسم مذکر۔ لاشی۔ چوب دستی۔ (ایسرے) زور بازو
جو ان ہے آسراہر پیر کا پڑکھ لودست کان میں بھی عصا ہے تیر کا پ (۵) قوت۔
بقول آصفیہ۔ عربی۔ اسم مؤنث۔ ہل۔ طاقت۔ زور۔ سکت۔

<p>بازو و باز کردن مصدر اصطلاحی۔ جو محبت اور خصومت دونوں سے متعلق ہے بقول بہار و بحر یعنی بازو بلند کردن</p>	<p>بازو و باز کردن مصدر اصطلاحی۔ جو محبت اور خصومت دونوں سے متعلق ہے بقول بہار و بحر یعنی بازو بلند کردن</p>
<p>دست یازیدن برای زدن یا گرفتن</p>	<p>دست یازیدن برای زدن یا گرفتن</p>
<p>چیزی (میر خسرو) دو شکر روی</p>	<p>چیزی (میر خسرو) دو شکر روی</p>
<p>در روسا زکردند با بکوشش بازوی</p>	<p>در روسا زکردند با بکوشش بازوی</p>
<p>کین باز کردند؛ مؤلف عرض کند کہ</p>	<p>کین باز کردند؛ مؤلف عرض کند کہ</p>
<p>معنی این مطلق کشا دن بازوست محبت</p>	<p>معنی این مطلق کشا دن بازوست محبت</p>
<p>باشد یا بخصوصت و ہر یک معنی ازین</p>	<p>باشد یا بخصوصت و ہر یک معنی ازین</p>
<p>پیدامی شود باضافت چنانکہ بازوی</p>	<p>پیدامی شود باضافت چنانکہ بازوی</p>
<p>در سند بالا گذشت۔ معنی سب او کہ کلہ باز</p>	<p>در سند بالا گذشت۔ معنی سب او کہ کلہ باز</p>
<p>درینجا یعنی دہم اوست یعنی کشا دہ۔</p>	<p>درینجا یعنی دہم اوست یعنی کشا دہ۔</p>
<p>(اردو) پٹ جانا اس کا حقیقی ترجمہ ہونا (ظفر) یار و اجل کا منہہ ہے کیا</p>	<p>(اردو) پٹ جانا اس کا حقیقی ترجمہ ہونا (ظفر) یار و اجل کا منہہ ہے کیا</p>

(۱۵۱۵)

<p>بہ ازان است کہ وزوی کنند و سپاوش آن دست بریدہ شود ارون و کن</p>	<p>جھپ جو ہاتھ اٹھا سکے ہوتی ہمارے قتل کو تیج علم اسی کی ہے پڑ</p>
<p>مین کہتے ہیں "مرنے سے مارنا بھلا ہے"</p>	<p>بازو برشت بستن اصطلاحی</p>
<p>کا مقصد یہ ہے کہ قبل از آنکہ تم پروار میں میں بند (ظہوری سے) برشت بستہ کیے تموار برسانا بہتر ہے۔ (۲) اور لحاظ سے</p>	<p>تغزیریت کہ ہر دو دست را برشت می بندند (ظہوری سے) برشت بستہ کیے</p>
<p>دوم "چوری سے ڈاکہ بھلا ہے"</p>	<p>بازوی صبر و طاقت و زلف تو ذوق دار و برگوشمال مردم (اردو) دیکھو (الف) بازو بستن اصطلاحی</p>
<p>ماحب آصفی ذکر (ب) بازو بستن</p>	<p>بازو بستن۔ بازو بریدن بہ مثل۔ صاحبان چھڑا از دست پڑانیدن و امثال فارسی کہ (الف) گرفتار کردن و دستہا برکتف یا</p>
<p>ساکت مؤلف عرف کنند بانی او گاہ رزم بازوی رشم بست</p>	<p>این کردہ اند و از معنی و محل استعمال مؤلف گوید کہ (۱) مقصود ازین مثل آ</p>
<p>اور زور پنچہ اور زور پنچہ دستان شکست دست مقابل برید یعنی قبل از آنکہ دشمن</p>	<p>کہ ازان پیش کہ دست تو بریدہ شود باید دست مقابل برید یعنی قبل از آنکہ دشمن</p>
<p>و دہا بقول وارستہ (۱) مصالح مرچیز چنانکہ رشتہ برائے تسبیح و دوال و امثال آن</p>	<p>بر توجملہ کند شمشیر زن و کار او تمام کن (۲) بعض معاصرین عجم برینند کہ ازین شکل</p>
<p>تسبیح شلمیم کہ بی بازو بستہ ہزار گوش بود تا سحر بہرہ مند</p>	<p>بر توجملہ کند شمشیر زن و کار او تمام کن مقصود اینست کہ بزور شمشیر چھڑی حاصل کن</p>

<p>و فرماید که در محاوره بند و باز گویند موعده عرض کند که این بوا و عطف مقلوب بند و باز است یعنی چیزی که ذریعہ بند و کشا و گی است و کنایه از مصالح هر چیز چنانکه وارث و ذکرش کرده و متعلق به معنی و هم کلمه باز باشد و (۲۱) اسم مفعول ترکیبی مرکب از باز و و اسم مذکر پنج بند - ایک زمانہ زیور جو بازو بند که امر حاضر است از مصدر بستن یعنی پر باند ہتھ پین -</p>	<p>تقول آصفیہ - مجرم کی شہدیان کسناہ دست ببرکتف بستن کا ترجمہ دونوں شانوں کو جانب پشت ملا کر جکڑ یا پکڑنا - گرفتار کرنا کسنا بھی کہتے ہیں (ب) (د) ساز و سامان باز و بند - بقول آصفیہ - فارسی اسم مذکر پنج بند - ایک زمانہ زیور جو بازو از مصدر بستن یعنی پر باند ہتھ پین -</p>
<p>چیزے کہ پر باز و بسته شود و نام زیورنی معروف صاحب اندر سجاولہ فرنگ و رنگ ذکر این از دست پریدن کردہ و تا در تالیف خود (تاریخ النوائط) است کہ بر (باز و پریدن بہ از دست پریدن ہم تعریف این بیان کرده ایم زیورست گذشت فرق ہمین است کہ (پریدن بوجہ کہ غریبا از نقرہ و امرا بہ طلا و مرصع سازند را (پریدن) بایے فارسی نوشتہ و (پریدن مرکب از چند پارہ ہائے تعویذ نامہ را بہ را کہ موعده بود بہ ہائے فارسی (پریدن) نقل رشتہ کشند و بر ہر دو باز و میان کتف و کرو (ار و و) و کیو باز و پریدن بہ از دست آرنج بہ بندند (باز و اند) و ترکیبی جو پریدن -</p>	<p>مثلاً - صاحب احسن ذکر این کردہ - همان است کہ بر (باز و پریدن بہ از دست پریدن گذشت فرق ہمین است کہ (پریدن بوجہ فارسی نوشتہ و (پریدن (پریدن) نقل (ار و و) و کیو باز و پریدن بہ از دست جو پریدن -</p>
<p>در جو (ب) بستہ بخود بجای باز و بند خیرہ نامی مجید شوشری - (ار و و) (الف) مشکین با مصدر اصطلاحی بہا ذکر این کردہ از معنی ساکت و صاحب اندر</p>	<p>باز و خوردن (الف) مشکین با مصدر اصطلاحی بہا ذکر این کردہ از معنی ساکت و صاحب اندر</p>

<p>فعل بخارش صاحب آصفی فرماید کہ (۱) <u>ظا</u> آجیسے تیغ ہونا۔ وہنگا کھانا۔ بقول آصفیہ۔</p>	<p>باز و زون است و آن باز و کوفتن باشد کہ صدرہ اشکانہ نقصان اوٹھاما۔</p>
<p>پہلوانان در وقت کشتی کنند مؤلف <u>عرب</u> باز و او ان <u>اصطلاحی</u> بقول</p>	<p>کنند کہ تحت ضرب کسی آمدن شداتہ تیغ کسی شد بہار و جہانگیری (در ضمیمہ کتاب) کہ آیا از</p>
<p>باشد صاحب آصفی از چین یک سند ظہوری یاری کردن و بقول برہان و بحر یاری کردن</p>	<p>معنی اول را پیدا کرده و استناد معنی (۲) یا کردہ ماہم از چین است (ظہوری س) استعمال پیش نہ شد و باز و در اینجا بمعنی پنجم</p>
<p>ظہوری و آشتی منظور آخر راحت خود را <u>ژ</u> اوست (ار و و) مدو کرنا۔ مدو دنیا۔</p>	<p>ژوی بر تیغ او خود را بخوردی حیف باز و <u>ظا</u> او است (ار و و) مدو کرنا۔ مدو دنیا۔</p>
<p>زوی بر تیغ او خود را بخوردی حیف باز و <u>ظا</u> او است (ار و و) مدو کرنا۔ مدو دنیا۔</p>	<p>با خیال ملکوت و تحقیقین بالا بہتر از صراحت صاحب آصفی و تصنیف معنی بیان کردہ اش</p>
<p>با خیال مابست ناظرین است و بس منجی <u>ظا</u> و نہ استعمال این ہم ہمد را بخاند کورد (ار و و) کہ در بعض نسخ دیوان ظہوری مصرع ثانی بر قوت رکنا۔ قوتند ہونا۔ زور دار ہونا۔</p>	<p>خلاف این نقل شدہ یعنی (ع) ژوی بر تیغ <u>ظا</u> (الف) باز و دراز <u>اصطلاح</u>۔ (الف) ژوی بر تیغ ابر وئی <u>ظا</u> (ب) باز و دراز شد <u>اصطلاح</u> بقول جہانگیری</p>
<p>خدای دانند کہ مقصود ظہوری چہ بود (ار و و) ضمیمہ کتاب) کہ آیا از غالب و مستولی و</p>	<p>(۱) خم ٹھوکن کا مقابل (۲) کسی کے زیرینا آن را دست دراز ہم گویند صاحب بر</p>

<p>گوید که (۱) مردم دراز دست و (۲) کتایه شدن (حکیم نزاری الفاسه) بنفایت گردید لطیف از غالب و ستولی شدن و دراز باز و دراز است؛ از آن چیز است دستی و بقول رشیدی و بحر دست و دراز و درینجا بقوله (ریشه خسر و الفاسه) تیغ نواز غالب بهار بهر دو معنی را کنایه گوید صاحب بهمن باز و دراز؛ با نوبتیت سخن نوبت نواز ناصری بر مردم دراز دست غالب است (نظامی ب س) و گریه گشتا بمن گوی قانع و فرماید که (۳) لقب بهمن اسفندیار از پاکه بازوی بهمن چرا شد دراز؟ بود صاحب آن ذکر (ب) کرده گوید که (ار و و) (الف) (۱) و شخص حسن که عالم دست دراز شدن است مؤلف سخن با تکه لسنه چون (۲) قوی - غالب (۳) کنند که (الف) اسم فاعل ترکیبی است و معنی باز و دراز - لقب به بهمن اسفندیار کا اول حقیقی است که بازوی بعض دراز باشد (ب) قوی هونامه - غالب هونامه و گویند که این علامت اقبالندی و توانائی با زور اصطلاح - بقول جهانگیری و اوست و معنی دوم کنایه که شخص زور دار ناصر و برهان و رشیدی و سراج و و غالب را میاز آبا ز و دراز گویند و معنی جامع بر وزن کافور نام جادوئی است بیان کرده برهان غلط است و نتیجه کلمه توپ از توران که جادوئی کرده لشکر ایران را او بر قواعد فارسی بان و آنچه بهار بهر دو معنی را شکست داد و آخر از دست رها من گوید کنایه گوید صحیح نباشد معنی اول حقیقی است کشته شد (فروسی س) بیامی موی نهان پرده و معنی دوم مجاز و کنایه و (ب) یعنی قوی به رها من نبود انگشت کوه پاکه باز و دراز</p>	<p>گوید که (۱) مردم دراز دست و (۲) کتایه شدن (حکیم نزاری الفاسه) بنفایت گردید لطیف از غالب و ستولی شدن و دراز باز و دراز است؛ از آن چیز است دستی و بقول رشیدی و بحر دست و دراز و درینجا بقوله (ریشه خسر و الفاسه) تیغ نواز غالب بهار بهر دو معنی را کنایه گوید صاحب بهمن باز و دراز؛ با نوبتیت سخن نوبت نواز ناصری بر مردم دراز دست غالب است (نظامی ب س) و گریه گشتا بمن گوی قانع و فرماید که (۳) لقب بهمن اسفندیار از پاکه بازوی بهمن چرا شد دراز؟ بود صاحب آن ذکر (ب) کرده گوید که (ار و و) (الف) (۱) و شخص حسن که عالم دست دراز شدن است مؤلف سخن با تکه لسنه چون (۲) قوی - غالب (۳) کنند که (الف) اسم فاعل ترکیبی است و معنی باز و دراز - لقب به بهمن اسفندیار کا اول حقیقی است که بازوی بعض دراز باشد (ب) قوی هونامه - غالب هونامه و گویند که این علامت اقبالندی و توانائی با زور اصطلاح - بقول جهانگیری و اوست و معنی دوم کنایه که شخص زور دار ناصر و برهان و رشیدی و سراج و و غالب را میاز آبا ز و دراز گویند و معنی جامع بر وزن کافور نام جادوئی است بیان کرده برهان غلط است و نتیجه کلمه توپ از توران که جادوئی کرده لشکر ایران را او بر قواعد فارسی بان و آنچه بهار بهر دو معنی را شکست داد و آخر از دست رها من گوید کنایه گوید صحیح نباشد معنی اول حقیقی است کشته شد (فروسی س) بیامی موی نهان پرده و معنی دوم مجاز و کنایه و (ب) یعنی قوی به رها من نبود انگشت کوه پاکه باز و دراز</p>
--	--

مستوہ بود با فسون قبل بران کوه بود ہر سو ہی رفت ہا بخون اندر چو مردان شہان
 مؤلف عرض کند کہ وجہ تسمیہ این جزیرہ (ارو) خم ٹھوکنہ بقول آصفیہ و زور
 نباشد کہ صاحب زور بود و قوی کلمہ بادشاہ یا بازون پر اس طرح ہاتھ مارنا کہ حرف
 یعنی ہند ہم اوست کہ مفید معنی فاعل باشد جان لے کہ اب یکہ کشتی کو تیار ہے۔ پیچھے
 ظاہر القیش معلوم می شود نہ نام و اللہ علم ٹھوکنہ۔ ڈنڈ بجانہ دست بازو زون و
 (ارو) بازور۔ توران کے ایک جاو دست فرو کوفتن کا ترجمہ۔
 کا نام تھا جس نے اپنے جاو کے زور سے بازو ستون کردن | مصدر اصطلاحی
 لشکر ایران کو شکست دی اور آخر کار یہ بقول بہار و بحر واندر راست کردن بازو
 بن گورد ز کے ہاتھ مارا گیا۔ برائے کان کشیدن و مانند ان مؤلف
 بازو زون | مصدر اصطلاحی بقول عرض کند کہ راستون کردن بازو یعنی
 بہار یعنی بازو کوفتن چنانچہ پہلوانان در معنی بجائے خودش می آید و بہار و رانجام
 وقت کشتی کنند صاحب بحر با اتفاق معنی از زمین شعر سیر از جلال استناد کردہ (ص)
 بہار گوید کہ این مقابل (بازو خوردن) راستون می کرد بازو سے طعیدن می شکست
 است مؤلف عرض کند کہ حقیقت ہاں ہاں تا توانی ہاے دل زور کان مانداشت ہا
 خوردن بجائیش ذکر کردہ ایم و نید ایم مخفی مباد کہ چون کان می کشند بازو راست
 کہ مقصود صاحب بحر از مقابل چسیت۔ می شود و بدین وجہ کہ ستون ہم راستی دارد
 (حکیم از رقی سے) اجل بازو زمان کتابتہ این معنی پیدا شد۔ ازین سند مصدر

(باز و ستون کردن) و (باز و شکستن) هر دو (ار و و) (الف) (۱) باز و تورا (ب) قولی
 پیدامی شود و عدم تکرار لفظ باز و در مصرع زور آور۔
 اول بلیغ است (ار و و) باز و کبر اگر باز و کشا و ن | مصدر اصطلاحی بقول
 باز و بلند کرنا چیسے غلیل چلاتے وقت یا بہار و وارستہ (۱) کنایہ از جوالمزدی و سخا
 مکان کھینچتے وقت باز و کبر اگر کیا جاتا ہے۔ کردن و بقول بحر (۲) سعی بلیغ نمودن ہم
 (الف) باز و شکستن | مصدر اصطلاحی مؤلف عرض کند کہ حیف است کہ سند است
 (ب) باز و شکن | صاحب آصفی از معنی اول پیش نشد و لیکن خلاف قیاس نسبت
 (الف) کرده از معنی ساکت مؤلف عرض کہ از داد و دہش باز و کشا دہ می شود یعنی
 کند کہ بمعنی حقیقی بی کار کردن باز و ست ب حرکت آید و معنی دوم ہم خلاف قیاس باشد
 از شکستن آن و بصورت اصناف باز و کہ از سعی بلیغ دست و پا ب حرکت آید و لیکن مجرور
 بطرف چیزی چنانکہ (باز و می ہمت شکستن) قول صاحب بحر تصانیف سند استعمال است و
 زائل کردن ہمت سدا این از کلام میرزا جلالہ تحقیق ما (۳) بمعنی دست دعا بلند کردن
 بر باز و ستون کردن گذشت و (ب) بقول کہ ازین حرکت ہم باز و کشا دہ می شود۔
 بہار و بحر کنایہ از بسیار قوی و زور آور (مخلص کاشی ۵) بے دست کشا دہ نیست
 مؤلف عرض کند کہ اسم فاعل ترکیبی مقبول دعا باز نہار زبان بہ بند و باز و کشا
 است (نظامی ۵) ترنگ گمان ہاے باز و مصرع دوم این معنی سوم پیداست
 باز و شکن و ایسی خلق را بروہ از خورشید و تحقیقین اول الذکر از ہمین مصرع است و سخا

(۲۱۵۶)

(۲۱۵)

اقل کرده اند و بہ تحقیق با (۲۱) بمعنی تحقیق ہم یعنی این گذشت من وجہ سند این گیریم معنی مبارک
 کشادہ بازو و واگردنش (پہوری سے) بازو کہ در ضمیرہ برہان این را بکاف فارسی نوشتہ
 کشادہ در یخ تنگ چون دلم بہ ای عشق ہمہتی مگر و مصدر (کشادہ - بکاف فارسی) ہم معنی
 اور از سر کشتم کہ جادارو کہ ازین سند معنی دو بازگردن و واگردن آمدہ (ارو) حساب
 را متعلق کنیم (ارو) (۱) ہاتھ کھولنا ہوا احتیاج - محتاج۔

اصفیہ سخاوت کرنا۔ (۲) سعی ملینج کرنا (۳) بازو کو فتن مصدر اصطلاحی۔ صاحب
 دعا کے لئے ہاتھ بلند کرنا۔ (۴) بازو پھیلا نا۔ آصفی ذکر این بحوالہ بہار کردہ از معنی ساکت
 بازو کشادہ اصطلاح۔ بقول بھروسہ و سند استعمال ہم پیش نگر دو بہار ذکر مستقل

نیاز مند و محتاج۔ صاحبان ہفت و انداز این مصدر نکر دو لیکن بہ تعریف (بازو زدن)
 بحوالہ قتیبہ ذکر این کردہ اند مؤلف عرض گوید کہ (بازو کو فتن) است و ما این را
 کند کہ اسم مفعول مصدر (بازو کشادہ) بدون وجود سند استعمال مرادف (بازو زدن)
 است کہ گذشت پس وجہ نیست کہ بہر جا نہ گیریم کہ بہار صاحب زبان نیست و صاحب
 معنی گیریم کہ بہر جا نہ گذشت باقی حال بڑی نفائس بر (خم ٹھوکنا) می فرماید کہ دست
 این معنی طالب سند استعمال باشیم و خلاف بازو زدن و دست فرو کو فتن ہم پس
 قیاس نہ انیم کہ محتاج ہم دست درازی کنج و (بازو کو فتن) بدین معنی از نظر ما گذشت
 و ازین حرکت بازو کشادہ می شود و جادارو (ارو) و یکہو بازو زدن۔

کہ از کلام پہوری کہ بر معنی چہارم مصدر (الف) بازو و نمودن مصدر اصطلاحی

<p>بقول بھرا ہمار قوت کر دے۔ و صاحب آصفی طاقت رکھنا سکنا جیسے بے میری تلوار تیرے ذکر این کر وہ از مہنی ساکت و بہار بر۔ مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتی بے یا تیرا مقابلہ (ب) بازو و تیغ نمودن گوید کہ گناہ نہیں کر سکتی بے</p>	<p>از اظہار قوت و تمیز زنی کر دے و صاحب بازو و تیغ در رقتہ اصطلاح۔ بقول آصفی نقل نگارش و سند ہر دو از ملا ہاتھی صاحب رہنما جو اہل سفر نامہ ناصر الدین شاہ (س) کشیدند شیر باید ریغ بدشمن نمودند قاجار دستی کہ مفصل بازو گذار تہ باشد بازو و تیغ ہر مؤلف عرض کند کہ ما ہا ہر مؤلف عرض کند کہ اسم مفعول (در فتن اتفاق داریم لفظ اور (ب) و با بحر متعلق ہا ہر مؤلف (بازو و عضو) است کہ بجای خودش می آید معنی و مجر و بازو نمودن را بدین معنی نگیریم (ار و و) اتر اہوا بازو۔ مذکر۔ (ار و و) اظہار قوت کرنا۔ بازوی چینی داشتن مصدر اصطلاحی بقول بہار و بحر و اشد یعنی قوت و استعداد (پہوری س) چرخ را بازو و کان تو نیست چینی داشتن است مؤلف عرض کند کہ ہر سر خورد در خورشان تو نیست ہر (ار و و) و یہیجا لفظ بازو متعلق بہ معنی چیم اوست و طاقت کمان۔ کمان کی طاقت۔ مؤنث۔ سند استعمال این ہم ہمدرا بخاند کور شد (ار و و) واضح ہو کہ کمان سے کمان تیرا ہے۔</p>
<p>بقول سروری و جہانگیری و سراج و ناصر ی بفتح زائے مجملہ (ا) چوبلی باشد متوسط کہ بدست گیرند و دوستی نیز گویندش صاحب جہانگیری نماید کہ چوب گندہ</p>	<p>بقول سروری و جہانگیری و سراج و ناصر ی بفتح زائے مجملہ (ا) چوبلی باشد متوسط کہ بدست گیرند و دوستی نیز گویندش صاحب جہانگیری نماید کہ چوب گندہ</p>

(۲۱۵۸)

و لک مانند چوبی کہ کیان را از ان بیاویند و چوب دستی و امثال آن و بقول صاحب
جامع و برهان چوب گندہ کہ قیان و تر از و را از ان آویند و چوب دستی و سرتدی
قندران و بقول صاحب رشیدی و ناصر بن بطریق مجاز عصا و چوبیت بزرگ و شاقہ
و امثال آن گو یا بازہ اشجار است چه بازہ لغتی است در باز و مولف عرض کند کہ
بازہ و معنی عصا ہم بجایش گذشت پس چرا نگوییم کہ این مبتدل آنست کہ واو بدل شدہ
ہای ہوز چنانکہ اوسو و اوسہ (خجستہ) نشستہ بعد ششم در کارہ ہا گرفتہ بچنگ
اندرون بازہ ہا (حکیم سوزنی) آن مژدہ چسبیت آنکہ برای صواب او ہا پانیریا
ببازہ چوپان رسید بازہ ہا (اردو) دیکھو بازو کے چوتھے معنی۔ اور بلحاظ معنی مجاز
لشعا۔ بقول آصفیہ۔ ہندی۔ اسم مذکر۔ شہتیر۔ گولا۔ و کن میں اس ہند اور بڑی
لکڑی کو لشعا کہتے ہیں جو مختلف کاموں کے لئے زمین میں گاڑ دیتے ہیں۔

(۲) بازہ۔ بقول جہانگیری و برهان و رشیدی و جامع و ناصر بن کثادگی سردوست
از سر انگشتان دستی تا سر انگشتان دست دیگر و آن را باز ہم خوانند و بعضی باع
و بترکی قلاج۔ خان آرزو در سراج فرماید کہ ما خود از بازہ مولف عرض کند کہ
باع و بازہ نتیجہ پیمایش دو دست کشادہ و باز کردہ شدہ پس جاوارو کہ فارسیان
ہای نسبت بر کلمہ بازہ زیادہ کردہ باع را بازہ گفتند و باز کہ ہمین معنی گذشت
مختلف ہمین بازہ باشد و توجیہ بیان کردہ خان آرزو ہم من وجیہ درست است
(حکیم اسدی) چہی ژرف دیدند صد بازہ راہ ہا کی چرخ گردندہ بالای چاہ

(ارو) دیکھو باز کے دوسرے معنی۔

(۳) بازہ۔ بقول جہانگیری و برہان و جامع و ناصر فی فاصلہ میان دو دیوار و میان دو کوہ کہ عبارت از کوچہ و درہ بود۔ صاحب رشیدی گوید کہ بدین معنی لغتیں است و باز یعنی کشادہ۔ مؤلف عرض کند کہ مقصود رشیدی بحرین نباشد کہ بر کلہ باز کہ معنی کشادہ گذشت ہاں ہونہ زیادہ کردہ کوچہ و درہ را نام کر وند کہ کشادگی در میان دو دیوار و دو کوہ دارد (ارو) کوچہ بقول آصفیہ۔ فارسی۔ اسم مذکر۔ گلی۔ گلپارا۔ راہ تنگ۔ درہ بقول آصفیہ۔ فارسی۔ اسم مذکر۔ دو پہاڑوں کے درمیان کا راستہ۔ دیکھو انبرہ کے تیسرے معنی۔

باز صبر اصطلاح۔ مخفف ہمان باور ہاں ہمان مثل است کہ ذکرش بلا احمد پارسہ است کہ بجای خودش گذشت و ذکرین کثرت جعل استعمال این را ہمدراستجا بیان ہمدراستجا کردہ ایم (ارو) دیکھو ماڈر کردہ ایم (ارو) جو کیفیت پہلے تھی باز ہمان حال شد احمد پارسہ را مثل اب بھی ہے دیکھو احمد پارسہ۔

بازری بقول بہار (۱) معروف و (۲) دغا و فریب و فرماید کہ معنی اول با لفظ آورون و آمیختن و کردن مستعمل و معنی دوم بالفظ خورون و وادون۔ صاحب انند نعل بگارش صاحب نوید فرماید کہ معنی اول ترجمہ لعب است و (۳) طشت را گویند و (۴) مرکب است بمعنی با پیرایہ۔ صاحب رہنما جو الہ سفر نامہ ناصر الدین شاہ قاجار ذکر معنی اول کردہ مؤلف عرض کند کہ اکثر محققین زبان دان این لغت

ترک کرده اند و طححات این را آورده اند و جهش غیر ازین نباشد که این را لغت معروف
 خیال کردند و بیان طححات را کافی شمردند و پی به ماخذ نبردند و خیال اکثر معاصرین عجم
 اسم جاد است و اسم مصدر (بازیدن) که می آید. و برای آنچه لغت مختصری غیر ازین
 چه خیال کنیم ولیکن خیال ما اینست که این مرکب است با کلمه بامعنی بهندمیش و زنی
 که با کسر معنی حیات و زندگی است (کافی البرهان) و جزین نیست که زنی مختلف نسبت
 باشد پس معنی لفظی (بازی) صاحب زندگی و زیست دارنده و کنایه از لعب که نزد حکما
 مایه زندگی است و صحت و تندرستی باقی ماندن آنکه با اشتغال دیگر ورزش و لعب
 را هم قائم نداریم و همین است ماخذ این بمعنی اول و بدین وجه که در لعب دیگری را
 اکثر لغویانند از ند معنی دوم بر سبیل مجاز قائم شد و جادارو که برای ماخذ این بمعنی
 دوم بای نسبت بر کلمه بازی داده کرده باشند که معنی عکس و قلب گذشت پس معنی لفظی
 این منسوب عکس و قلب و کنایه باشد از دغا و فریب. آنچه صاحب مؤید این را بمعنی سوم
 نقل کرده است مقرر شد که معنی لفظی این در عربی بمعنی خم دارنده و خمیده. فارسیان
 کنایه از طشت گرفته اند که خم دارد و معنی چهارم را غیر او دیگر کسی از محققین فارسی زبانان
 ذکر نکرده و طالب سند باشیم و اگرند استعمال بدست آید تو انیم عرض کرد که معنی لفظی این
 بازیست است و زنی مختلف نسبت و جادارو که زنی لغت عرب گیریم بمعنی لباس پس
 اندرین صورت معنی لفظی این صاحب لباس و کنایه از صاحب زینت باشد (ارو)
 (۱) بازی بقول آصفیه. فارسی. اسم مؤنث کھیل. تماشا. کرتب (۲) بازی بول

آصفیه مؤنث - چال - قریب - دموکا - (۳) طشت - بقول آصفیه - مذکر معرب لثت
بڑا طباق - تھال - لگن - پرات - تسلا (۴) آراستہ -

بازار اصطلاح بقول جهانگیری و برهان (۱) کسی را گویند که یا بازار کنایه توان گرفت از پادشاه
زراعت کند یعنی برترگر (شاه داعی شیرازی) نه مزارع جیف است که بعضی محققین
(۵) آب راحی را اندر مردی باز یار گویند یا با معنی حقیقی متعلق می کنند و خیال
کنند که هستی در چه کار بگفت انگور و انار و متعلق معنی حقیقی با کنایه لابد (ارو)
سیب و به با می کشم زین جوی سوی بدغ مزارع کسان - مذکر -

وده و از جواب باز یار خوش ضمیر این (۲) بازار بقول جهانگیری و برهان
اشارت تا بسوی عشق گیر بگفت خان آرزو و سراج و جامع و بحر بازو را گویند یعنی
در سراج بزرگ معنی دیقان و مزارع گوید میسرکار (حکیم سوزنی ۵) تا نگیر و بازار
که اغلب که بدین معنی به زامی فارسی که معنا آن کش خرامیدن ز کبک و تانیا مورد
باج باشد مؤلف عرض کند که به خیال خرامان کبک باز بدین زبان دست
ما کلمه باز و ریجا یعنی گذرگاه سیل است در زلف چو چنگ باز یار کبک زن با
که بر معنی هجرت همیشه گذشت یعنی دوست و شرکار بوسه چون بازان بسوی کبک
گذرگاه سیل و کنایه از مزارع - آنچه خا بازار بقول صاحب نامصری و اندر معنی
آرزو و ریجا باز را به زامی فارسی یعنی باز و میسرکار مؤلف عرض کند که معنی

حقیقی این دوست باز و نگاہدار باز و مجازاً	را که جرمانه قابل وصول از دست باز یافت
معنی میر شکار باشد و آنچه محققین آخر الذکر	یعنی وضع کردیم و باقی چهل روپہ را
معنی باز نوشته اند سکندری خورده اند	بنام واجب الاوقاف کم کردیم پس این
غور بر معنی لفظ نکرده اند قاتل (ارو)	و صناعات ده روپہ باز یافت نام دار
میر شکار شکاری - مذکر -	معاصرین عجم و سیاق عجم ہم ہمین اصطلاح

باز یافت	اصطلاح بقول مجر و تندر
----------	------------------------

وغیات (۱) بمعنی خریدن - دیگر کسی از	معنی ہفتم اوست یعنی مراد ازین عمل ہمین
محققین فارسی زبان ذکر این نکرده	قدر است کہ شاہرہ کامل خریدار کردیم
عرض کنند کہ قول ہر سہ محققین بالا بدون	و دہ روپہ ز جرمانه را باز گرفتیم (ارو)

ند استعمال اعتبار را شاید طالب سند	(۱) خریداری - خرید - اسم مؤنث - خریدنا
------------------------------------	--

باشیم و اگر سند استعمال بدست آید گوئیم	کا حاصل بالمصدر (۲) باز یافت اصطلاح
--	-------------------------------------

کہ بمعنی حاصل بالمصدر یعنی خرید و خریداری	سیاق میں اس صناعات کا نام ہے جو
---	---------------------------------

باشد نہ خریدن و تحقیق ما (۲) در اصطلاح	کی واجب الاوقاف رقم سے وضع کیجاتی ہے
--	--------------------------------------

سیاق زر می را گویند کہ لائق واپسی باشد	باز می انگشتن مصدر اصطلاحی
--	----------------------------

یعنی زر می کہ از میزان واجب الوصول کم	اصنی ذکر این کرده از معنی ساکت مؤلف
---------------------------------------	-------------------------------------

گند مثلاً شاہرہ زید چاہ روپہ واجب	الاولیٰ گوید کہ بازی گری و شعبہ بازی کردن
است ولیکن در بر آوردن شاہرہ و زید	متعلق بمعنی اول یا دوم لفظ بازی است

<p>(نظامی سے) دلاچند زین بازی انگلیختن پاپیماں فی سوران شدہ (ار و و) الف بہر دست رنگی در آمیختن (ار و و) بازی ہارنا۔ (ب) (ا) بازی کی ہار۔ شعبہ بازی کرنا۔ نظر بندی کرنا۔ چالاکا (۲) کھیل کود۔ بقول آصفیہ اسم مذکر۔ کرنا۔ مکاری کرنا۔ مولف عرض کرتا ہے۔ اچھل کود۔ مولف عرض کہ بازی گری کرنا بھی کہہ سکتے ہیں۔</p>	<p>استعمال جیسا میں آپ نے تعلیم کا وقت گزار دیا ہے۔</p>
<p>(الف) بازی باختن</p>	<p>اسی طرح</p>
<p>(ب) بازی مازی</p>	<p>اصفیٰ ذکر الف</p>
<p>گر وہ از معنی ساکت مولف گوید کہ یہ باہا ہم بازی</p>	<p>مشرق و امثال</p>
<p>معنی حقیقی باختن بازی است بہا نسبت فارسی ذکر این کردہ از معنی و محل استعمال (ب) گوید کہ یہ بی پروائی کار کردن صاحب ساکت مولف عرض کند کہ چون فاری بحر و اندوختن نقل نگارش مولف کسی را بزرگان در تخریب تہذیب ہست</p>	<p>عروض کند کہ (۱) حاصل بالمصدر الف این مثل رازندہ (ار و و) دکن میں است و بس واگر تکرار لفظ بازی گیریم جب کوئی شخص کسی بزرگ کے ساتھ معنی آن کثرت بازی باشد (۲) یعنی اہو و مسخرہ پن کرتا ہے تو حاضرین میں سے لعب و سند ہمہ تحقیقین از کلام صاحب کوئی شخص اسکو روکتا ہے اور اسی فاری است (۳) بنامی طاقت من گریہ بود مثل کا استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے، از بی ستون افروزوں بہ بازی بازی آخر اب تو تم بہت بڑھ گئے یہ کیا واسیات</p>

<p>اور فضولی ہے۔ بازی بازی بریش با بازی لفظ ہم اس میں داخل نہیں ہے۔ بازی بانگیز بقولہ۔ خان آرزو دروغ گوید کہ بفتح و سکون نون و کاف فارسی و مجهول و زای مجرہ بازی کہ نزدیک باشد بازی اینجمن۔</p>	<p>بازی بانگیز بقولہ۔ خان آرزو دروغ گوید کہ بفتح و سکون نون و کاف فارسی و مجهول و زای مجرہ بازی کہ نزدیک باشد بازی اینجمن۔</p>
<p>بہ برون و کنا یہ از خوبی بازی بہار و بجز انڈیم ہائش مؤلف گوید کہ باید کہ (بازی) بانگیز است قائم کنیم و این بقولہ فارسی است کہ چون بازی کسی را غالب بیند بہ مقابلش گویند کہ بازیت بانگیز است (دشمنی) شدیم مات بشرط پنج غائبانہ تو پو با بخند کہ خوش بازیت بانگیز است (ارو) بازی بڑی بڑی ہوئی ہے بازی بڑی بڑی ہوئی ہے یعنی بازی غالب بازی بر آوردن از پرودہ صاحب آصفی ذکر (بازی بر آوردن) کردہ فرماید کہ مرادف بازی اینجمن است</p>	<p>بازی بانگیز بقولہ۔ خان آرزو دروغ گوید کہ بفتح و سکون نون و کاف فارسی و مجهول و زای مجرہ بازی کہ نزدیک باشد بازی اینجمن۔</p>
<p>بازی بانگیز بقولہ۔ خان آرزو دروغ گوید کہ بفتح و سکون نون و کاف فارسی و مجهول و زای مجرہ بازی کہ نزدیک باشد بازی اینجمن۔</p>	<p>بازی بانگیز بقولہ۔ خان آرزو دروغ گوید کہ بفتح و سکون نون و کاف فارسی و مجهول و زای مجرہ بازی کہ نزدیک باشد بازی اینجمن۔</p>

مگر تحقیق آنت کہ کلمہ چہ درین لغت برای جسے ہر ایک پسند کرے جیسے یہ شخص تو ایسا
نسبت است (انوری ۱۵) بکروین کا کہلونا ہے (۳) آسان کام۔ مذکر۔
این کار کہ سہل است و سلیم بملک است بازیچہ اطفال شدن استعمال یعنی
نہ بازیچہ کہ الملک عقیم ب (ظہوری ۵) حقیقی بازیچہ طفلان قرار یافتن است۔
رازی کہ ودیعت خموشی است بازیچہ (ظہوری ۵) از ہمہ سادہ تر و از ہمہ پر
زنگ سخن گوشت پانیت معنی دوم عن کار ترم ب ہر کہ بازیچہ اطفال شد اطفال
کنیم کہ مجاز باشد کہ مسخرہ ہم بچہ بازیچہ است است ب (اردو) بازیچہ اطفال بنا
وقول صاحب ناصری کہ از اہل نسبت بچون کا کہلونا بنا۔
ستند و برای معنی سوم وجہ کنایہ نیت بازیچہ روم و زنگ اصطلاح۔
و دیگر کسی از محققین فارسی زبان ذکر کیا صاحب جہانگیری در عمیرہ کتاب گوید کہ
نکر و نند استعمال پیش نشد و معاصرین کنایہ از روزگار و کنایہ از مسخرہ روزگار
بعم بر زبان نداشتند اعتبار را نشاید و بقول صاحبان برہان و بحر مسخرہ روز
(اردو) (۱) بازیچہ بقول آصفیہ۔ و شب و کنایہ از دنیا و روزگار اعتبار
فارسی۔ اسم مذکر۔ کہلونا کہیل۔ تاشد شب و روز مؤلف گوید کہ روم و زنگ
(۲) مسخرہ۔ مذکر۔ و کیوا الواط۔ صاحب استعارہ باشد از صبح و شام و بازیچہ یعنی
آصفیہ نے کہلونا پر فرمایا ہے۔ ہندی اولش پس بازیچہ روم و زنگ کنایہ از
اسم مذکر۔ وہ خوش مزاج یا مسخرہ آدمی دنیا است کہ دو رنگ دار و بیچ تعلق

(۱۷۱)

تناسخ نفس پوکبک را و اوہ در ہنرمازی کہ بہین معنی گذشت محفف و مبتدل این
 (ارو) (۱) و ہو کا وینا۔ فرب وینا باشد کہ بازی را بچیف تخیالی باز کردند
 جل وینا۔ (۲) کھیل کہلانا کھیل میں مشغول ہونے کا معنی ہے۔ بازی ہوتی ہے جو بچائی مجھہ بدل شدہ باخ شد
 بازیکن بقول صاحب بحر (۱) بازی چنانکہ فرآز و فرآخ و پس از ان علامت
 کردن و (۲) در از کردن (کامل التصرف مصدر تن) برو زیادہ کردہ مصدری
 و مضارع این باز و صاحب موارثت ساختند و این ہم مصدر اصلی است و
 معنی اول صراحت کند کہ اشتغال کردن اشتقاق این مخصوص است و کامل التصرف
 بازی نمود و شطرنج و گوی و شکار و مانند نیت بلکہ متظرب تعریف صاحب بحر سالم
 آن و حاصل بالمصدر این بازی و صاحب التصرف است کہ غیر از ماضی و مستقبل و
 نو اور ہنرمایش مؤلف عرض کند کہ اسم مفعول نیاید۔ آنا کہ بعض مشتقات بازیکن
 مصدر این ہم بازی است کہ حقیقت را برای با ختن مخصوص کردہ با ختن را کامل
 ماخذش بجایش بیان کردہ ایم فارسیان التصرف خیال کردہ اند (چنانکہ خود صاحب
 بقاعدہ خود (ون) علامت مصدر را پی بحقیقت ماخذ نبروہ اند حیف است کہ
 بر لفظ بازی زیادہ کردہ مصدری ساختہ باشد ما اشارہ این بر با ختن نکرودہ ایم از نجات
 و این مصدر اصلی است نہ جعلی کہ اسم کہ در اینجا تلافی مافات کردہ ایم مخفی مباد کہ
 مصدرش لغت زبان فارسی است نسبت معنی دوم این مجر و قول صاحب بحر
 ویامی کسور ہم اصلی است نہ زائد و با ختن است۔ طالب سند استعمال باشیہ اروہ

<p>اول شب و بازیره آخر حصه دار آخر شب اسم فاعل ترکیبی است یعنی قصد بازی کفینه و مجازاً برای حصه اول و آخر شب مستقل و مراد از بازنده و رنشته قدیم بهار بر باز شد (ار و و) حصه شب - مذکر جیبی سگال بازی گرنوشته و حقیقت بازیگر اول حصه شب و آخر حصه شب - رات بجایش می آید و خیال ما با بازی سگال و کا حصه - مذکر جیبی پهلوی رات پهلوی رات وار و (ار و و) (الف) کھیلنے والا راب (الف) بازی سگال استعمال - کھیلنا - بازی کرنا -</p>	<p>اول شب و بازیره آخر حصه دار آخر شب اسم فاعل ترکیبی است یعنی قصد بازی کفینه و مجازاً برای حصه اول و آخر شب مستقل و مراد از بازنده و رنشته قدیم بهار بر باز شد (ار و و) حصه شب - مذکر جیبی سگال بازی گرنوشته و حقیقت بازیگر اول حصه شب و آخر حصه شب - رات بجایش می آید و خیال ما با بازی سگال و کا حصه - مذکر جیبی پهلوی رات پهلوی رات وار و (ار و و) (الف) کھیلنے والا راب (الف) بازی سگال استعمال - کھیلنا - بازی کرنا -</p>
<p>صاحب اتند بازی شب اصطلاح بقول انندو در تعریف این بر لفظ (چاپو) حواله کرده شمس (۱) خمر نوشیدن و (۲) آتشباری و بر (چاپوک دست) از حکیم اسدی شده گردون و (۳) بیرون آوردن صورتها آورده که استعمال بازی سگال درانت و این را هفت بازی هم گویند صاحب (۵) چه چاپوک دستی است بازی سگال هفت به اضافت بازی بسوی شب فکر که در پرده داند نمودن خیال با صاحب هر سه معنی بالا کرده گوید که مرادف هفت اصغری بجواز بهار بر (ب) همین سند را بازی باشد مؤلف عرض کند که مرکب نقل کرده از معنی ساکت مؤلف عرض اضافی است طالب سند استعمال با شیخ کند که سگالیدن بقول صاحب بحر یعنی مخفی مباد که شب باز بقول برهان کسی که قصد کردن آمده پس معنی نقلی (ب) قصد شب با بازی کند و صورت های مختلف بازی کردن و مراد از بازیدن (الف) از پس پرده بنماید (الخ) پس بازی شب</p>	<p>صاحب اتند بازی شب اصطلاح بقول انندو در تعریف این بر لفظ (چاپو) حواله کرده شمس (۱) خمر نوشیدن و (۲) آتشباری و بر (چاپوک دست) از حکیم اسدی شده گردون و (۳) بیرون آوردن صورتها آورده که استعمال بازی سگال درانت و این را هفت بازی هم گویند صاحب (۵) چه چاپوک دستی است بازی سگال هفت به اضافت بازی بسوی شب فکر که در پرده داند نمودن خیال با صاحب هر سه معنی بالا کرده گوید که مرادف هفت اصغری بجواز بهار بر (ب) همین سند را بازی باشد مؤلف عرض کند که مرکب نقل کرده از معنی ساکت مؤلف عرض اضافی است طالب سند استعمال با شیخ کند که سگالیدن بقول صاحب بحر یعنی مخفی مباد که شب باز بقول برهان کسی که قصد کردن آمده پس معنی نقلی (ب) قصد شب با بازی کند و صورت های مختلف بازی کردن و مراد از بازیدن (الف) از پس پرده بنماید (الخ) پس بازی شب</p>

یعنی سوم خلاف قیاس نیست کہ شب بازی تحقیق محققین بالاسورت تحقیق را بازی
 قلب اصنافت اوست۔ صاحب بحر ذکر (شب اطفال کرده بہ تحقیق ماہر و مرادف یک
 بازی ہم یہین معنی کردہ (ارو) (۱) است یعنی مقام بازی و جای بازی
 شراب خواری۔ اسم موتث (۲) آتشی بازی۔ دیگر ہیچ (ظہوری ۵) از شوخی طفلان
 دیگر آتشی بازی کے دوسرے معنی (۳) تیلینا شدہ پامال موہما بازی کدہ لایہ و
 کا تاشا۔ بقول آصفیہ ہندی۔ اسم مذکر۔ لاغ است دل ماہ و ماگفتہ ایم (۴)
 لعبت بازی شب بازی۔ از شوخی طفلان کہن سال تغافل بازی
 بازی فلکی اصطلاح۔ مرکب تو صیغی لایہ و لاغ است لغت ماہ (ارو) بازی
 است کنایہ از حادثات زمانہ و واقعات۔ مذکر۔ مقام بازی۔ کھیل کود کی جگہ۔
 لیل و نہار (نوری ۵) بہ پیل حادثہ بازی کردن استعمال۔ صاحب آصفی
 شہ مات باد عمر عدوت بہ بازی فلکی ذکر این کردہ از معنی ساکت مؤلف عن
 از غرای و پاد افراہ (ارو) زمانہ کے کند کہ (۱) لعب کردن و بازی دین و (۲)
 حادثات۔ لیل و نہار کے واقعات۔ مذکر و قریب کردن (خرو ۵) زعدش
 بازی کردہ اصطلاح۔ بقول ہیا قریب میش بازی کند باشیر چون سنگ بازی
 یعنی بازی گاہ کہ می آید و بر بازی گاہ می فرماید پاسبانی گرگ و نبال شبان گیر و (الوری)
 کہ قریب یعنی بازی کردہ صاحب انند (۵) فتح یعنی کہ بازمانہ اوہ چون سمنڈی
 نقل نگارش مؤلف عرض کند کہ ضعف کند بازی (مخلص کاشی ۵) شیم را

(۱۴۱۱)

روز و روزم شب نمود از گردش چشمی و بقول رشیدی که کتابش بکاف فارسی
 با چه بازی کرد با من گردش افلاک را دید است شوخ و سخن ناشنوا صاحب بحر
 (ار و و) (۱) کھیلنا - (۲) فیرب کرنا نقل عبارت صاحب چراغ گوید که بکاف
 بازی گوش اصطلاح بقول سرور بازی خواندن خطاست - صاحبان آند
 و جهانگیری (در ضمیمه کتاب) (۱) کنایه و بهار گویند که معنی بازی دوست باشد
 از شوخ و شنگ و بقول خان آرزو در و فرمایند که از زبان دانان همین تحقیق است
 سراج بکاف فارسی طفل شوخ و شنگ و جوهر لفظ هم دلالت دارد که بکاف فارسی
 و فرماید که معنی ترکیبی این کسب که گوش بر آواز است مؤلف عرض کند که معاصرین هم
 بازی باشد نیز فرماید که بعضی بکاف تازی کاف فارسی و تازی هر دو را درست و آ
 خوانند اگر چه این بقیاس نزدیک است یعنی بکاف فارسی اسم فاعل ترکیبی است
 لیکن خلاف روزمره و داخل مجاز است بگویش بر آواز بازی دارند و بکاف تازی
 و هم او در چراغ گوید که طفلی که گوش بر آواز هم اسم فاعل ترکیبی باشد معنی بازی دوست
 بازی طفل دیگر باشد و آن کنایه از طفلی و کوشش بازی کننده آنانکه بر غلطی کاف تازی
 که شوق بازی بسیار دارد - صاحب جامع رای زده اند ذوق زبان ندارند و تلاش
 بکاف تازی ذکر معنی اول کرده گوید که (۲) شان محدود و بخیال مایه و درست است
 کنایه از محیل و فریبنده صاحب برهان و بلحاظ معنی دوم که بیان فرموده صاحب
 بصراحت کاف فارسی بر معنی اول قانع زبانست کاف تازی مخصوص - قاتل

<p>(مرزا طاہر وحید علی) چون صدف در (۱) باز گیر اصطلاح - بہار و گرامین</p>	<p>بھر طوفان خور و ہر سال خور و پگشتہ باز (۲) باز گیری کردہ از معنی ساکت و صفا</p>
<p>گوش از اخبار بازیہای ماہ (ظہوری علی) اند نقل نگارش مؤلف عرض کند کہ (۱)</p>	<p>می کنم بازی بہ پندناصحان و عشق طفلانم اسم فاعل ترکیبی است بمعنی بازی کنندہ</p>
<p>بازی گوش کرد (صائب علی) در زمان شعبہ پارہ (۲) بیای مصدری بمعنی شعبہ بازی</p>	<p>شترستی طفل بازی گوش من ہ ہیرہ گہوار (نظامی علی) پذیرا گز بہر بازی گریست</p>
<p>جای سنگ بر دیوار ریخت (۲) (ارو) ہ ہر پردہ اینچنین سرسریست (۲) (ارو)</p>	<p>ہ ہچو قرگان ہر دو عالم را بہم انداختہ است (۱) باز گیر بقول آصفیہ فارسی - اسم مذکر</p>
<p>ہ ہ از اشارتہای پنهان چشم بازی گوش تو تا شاگر بجا منتی شعبہ باز - (۲) باز گیر</p>	<p>ہ ہ (ارو) (۱) کہلاڑی - بقول آصفیہ شعبہ بازی مؤنث -</p>
<p>کھیل کو دین مشغول رہنے والا کھلندڑا بازی گوش اصطلاح - بہ کاف فارسی</p>	<p>(۲) کہلاڑی - بکار فریبی عیار - وغا بار چا ہمان بازی گوش کہ بجاف بازی گذشت</p>
<p>بازی گاہ اصطلاح - مرادف بازیگدہ و بمعنی اولش و بحث کامل این سہ در اینجا</p>	<p>بحث این بر بازیگدہ گذشت (ناصر علی) گذشت (ارو) و کھو بازی گوش -</p>
<p>ہ ہ (چو خواندی درس آزادی گلستان بازی لیلی اصطلاح - بقول صاحب</p>	<p>می شود زندان ہ کہ روز جمعہ بازی گاہ رہنا بجواز سفر نامہ ناصر الدین شاہ قاجا</p>
<p>طفلان است کتب ہ ہ (ارو) و کھو باز (۱) بمعنی بارگاہ شاہی - صاحب بول حال</p>	<p>کھو</p>

<p>بذکر معنی اول گوید کہ (۲) یعنی شبتان و ہم و یکدش (مفترس کرده یعنی بارگاہ شاهی است) او صراحت فرماید کہ از لغت انگلیسی (پوسلک) گردند صاحب بہ بان بر شبتان فرماید کہ معنی گرفته اند مؤلف گوید کہ بقول صاحب خانہ شب و حرم سرای پادشاهان و خلوت خانہ چیمبرس و کشنری (پسی لیکا) بزبان لاطینی بنا و خواب و تخیل مخصوص مساجد پس بجایاں ما معنی عظیم الشان رامی گفتند کہ از ان کار و بار دوم ہم داخل معنی لغت لاطینی است (اروی تجارت و فصل خصوصیات متعلق بود و بعد (۱) و یکبار جا (۲) شبتان بقول آصفیہ۔</p> <p>از ان ہمین منازل را بکار کلیسا و معبد فارسی۔ اسم مذکر خلوت خانہ خوابگاہ امیر و استعمال گردند و صاحب لغت تبدیل گوید کہ کے سونے کی جگہ مسجد کی وہ جگہ جہان رات (بیازی لیکا) لغت لاطینی است ما خود کو عبادت کرتے ہیں۔</p>	<p>از لغت یونانی (بیازی لیک) کہ معنی ختی بازی میرو وزیر اصطلاح۔ بقول این شتری عالی با ستون های بلند و باستانی چراغ و بہار و بجز و انند بازی است کہ اکثر منازل عامہ را بدین نام موسوم می گردند و اطفال و جوانان بازی کنند (سلیم ۵) معبد های نصاری را بہمین وضع می خوانند ہر دور بازی دیگری را پیش می آرند (سلیم ۵) و فی زمانہ بعض معبد های رومی را بہمین می کنند و در ان چو طفلان بازی میرو وزیر (اسم موسوم کرده اند پس فارسیان بہ حد (میر پیری شیرازی ۵) بچندش و الیان طفل تختانی دوم از لغت لاطینی و تبدیل الف آخر حقیر اند پادشہان ہم بازی میرو وزیر اند کہ بہ تختانی (چنانکہ ارغوان و یرغوان) و (کد) مؤلف عرض کند کہ بازی را نام است</p>
---	---

کہ دوران میر و وزیر فرضی قائم کنند فرضی میر و وزیر ہون جیسے گنجیضہ
و بس (ارو) و کھیل جس میں جس میں میر اور وزیر فرضی دونوں میں

باز بقول جہانگیری و برہان و سروری و رشیدی و جامع و ناصری بازامی عجمی "ازرو مال و اسباب
و غیر ان را گویند کہ پادشاہ قوی دست از پادشاہ و حاکم زیر دست بگیرد (فردوسی ۵)
چنان بد کہ ہر سال یک چرم گا و پازر کا بل بھی خواستی باثرو سا و (خاقانی ۵)
بہ بیچارگی باثرو سا و گران پد پذیرفت باید ترا بیکران پد (فردوسی ۵) نشند
با باثر ہر دو بر اسپ پد و ان تاسوی خانہ آذر گشپ پد خان آرزو و در سراج
گوید کہ باج کہ گذشت مبدل این است مؤلف عرض کند کہ صراحت ماخذ این
بر معنی اول باج کر وہ ایم (ارو) و کھو باج کے پہلے معنی۔

(۳) باثر۔ بقول جہانگیری و برہان و سروری و رشیدی و جامع و ناصری زری
باشد کہ را ہد اران و گذر بانان از سو و اگران و تجار و دیگر آیندگان و روندگان
بتانند (حکیم خاقانی ۵) زان باین رسدان مقیم را ہند پد کر قافلہ باثر خرم ہند
پد مؤلف عرض کند کہ مجاز معنی اول است کہ گذشت (ارو) و کھو باج کے دو معنی

(۳) باثر بقول جہانگیری و برہان و سروری و رشیدی و جامع و ناصری و سر
خاموشی بود کہ معان در وقت بدن شستن و خوردنی خوردن بعد از زمرہ
اختیار کنند و شرح این اجمال بذیل لغت برسم می آید و فرماید کہ باین ہر سہ معنی
کہ مذکور شد مراد باج است کہ گذشت (فردوسی ۵) پرستند آوز زرد

ہم ہی رفت با باثر و برسم ہشت (۴) (نظامی سے) چو آمد وقت خوان و ار می عالم ہا
 ز موبد خواست رسم باثر و برسم ہا مؤلف عرض کند کہ اسم جامد فارسی زبان
 است و اشارہ این بر باج کردہ ایم (ار و و) دیکھو باج کے تیسرے معنی۔

(۳) باثر۔ بقول جہانگیری و برہان و رشیدی و سراج نام قریبہ ایست از قرابی طوس
 از ناحیت طبران بزرگ گویند کہ تولد حکیم فردوسی در ان قریبہ واقع شدہ مؤلف
 عرض کند کہ اشارہ این ہم بر معنی ششم باج کردہ ایم وجہ تسمیہ این قریبہ غیر ازین بنا
 کہ این راشاہی بہ شہنشاہی عوض باج سپردہ باشد یا با جگیران راہ را ہدیہ یا بجای مقام
 واللہ اعلم۔ (ار و و) دیکھو باج کے چھٹے معنی۔

(۵) باثر۔ بقول برہان جزیرہ را ہم گویند کہ مسلمانان از کافران بگیرند مؤلف
 گوید کہ مجاز معنی اول باشد و اسم جامد فارسی زبان۔ ما اشارہ این بر لفظ باج ہم
 کردہ ایم (ار و و) دیکھو باج کے چوتھے معنی۔

(۶) باثر۔ بقول برہان مرادف باثر معنی باع۔ خان آرزو در سراج گوید کہ بدین
 معنی باثر بہ زامی تازی است چنانکہ گذشت مؤلف گوید کہ چرا گوئیم کہ بدین معنی
 تبدیل باثر است کہ زامی عربی بفارسی بدل شو چنانکہ آذرب و آذرب (ار و و)
 دیکھو باثر کے دوسرے معنی۔

(۷) باثر۔ بقول برہان و (خان آرزو در سراج) بمعنی دوش و بازو و یک
 بند انگشت۔ مؤلف عرض کند کہ دیگر محققین فارسی زبان ازین ساکت و اگر

سدا استعمال پیش شود تو انیم عرض کرد کہ تبدل باز است کہ بدین معانی گذشت زای عربی
باخاری بدل می شود چنانکہ آزیرو و آزیرو (اروو) و کیو بانہ کے چوتھے اور پانچویں

بازبان اصطلاح بقول برہان و انند مرادف باجبان و گزبان مؤلف عرض
ہفت بازای فارسی و یابی ابجد بر وزن کار کند کہ اسم فاعل ترکیبی است و باج خواہ کہ
(۱) شخصی را گویند کہ باج و خراج از مردم بجایش مذکور شد تبدل این کہ زای فارسی
می گیرد و او را بازوار ہم گویند و (۲) طائفہ بچیم عربی بدل شود چنانکہ کزک و کجک (ارو)
باشد از ترکان۔ صاحب ناصر بر تہنی و کیو باج خواہ۔

اول قانع۔ مؤلف عرض کند کہ باجبان **بازوار** اصطلاح بقول برہان و ہفت
کہ بمعنی اول گذشت تبدل ہمین باشد کہ بر وزن تاجدار بمعنی باجبان مؤلف عرض
زای فارسی بچیم عربی بدل شود چنانکہ کزک کند کہ اسم فاعل ترکیبی است مرادف باجدار
و کجک و حقیقت بان بر باجبان مذکور چنانکہ گذشت و آن تبدل این است کہ زای
کنز و لغات ترکی کہ محققین ترکی زبانند از معنی فارسی بچیم عربی بدل شود چنانکہ کزک و کجک
دوم ساکت و ہمین معنی دوم بر (بازمان) (اروو) و کیو باجدار۔

بچیم عرض موصدہ ہم می آید (اروو) (۱) **بازوان** اصطلاح بقول برہان و ناصر
و کیو باجبان (۲) ترکون کے ایک طائفہ کا و انند و شمس بر وزن پاسبان (۱) نظری یا
نام بازبان ہے۔ مذکر۔
گویند کہ زرباجی کہ از مردم گیرند و زبان

بازخواہ اصطلاح بقول مؤید و ہفت ریزند صاحب مؤید مذکر معنی اول کجوا کہ

<p>بز فائگو یا گوید که (۳) نگهدارنده باج هم مؤلف عرض کند که صاحب هفت معنی باشستان اصطلاح بقول اندکجه دوم را بر (باشروان) می نویسد که به و او فرستگ فرنگ بگره سمن مهمله یعنی باج گیر است عوض وال مهمله می آید که مبدل (باشربان) مؤلف عرض کند که اسم فاعل ترکیبی است تسامح صاحب مؤید یا دست دراز است از مصدر ستاندن و باج ستان که</p>	<p>چنانکه آذیر و آذیر و گریچ (ارزو) و گویو باز باشستان اصطلاح بقول اندکجه دوم را بر (باشروان) می نویسد که به و او فرستگ فرنگ بگره سمن مهمله یعنی باج گیر است عوض وال مهمله می آید که مبدل (باشربان) مؤلف عرض کند که اسم فاعل ترکیبی است تسامح صاحب مؤید یا دست دراز است از مصدر ستاندن و باج ستان که</p>
<p>کاتب باشد که معنی دوم را برین اصطلاح نقل کرد و غور بر ماخذ نگرد و باجدان که معنی اول گذشت مبدل این است یعنی (ارزو) دیکه باج ستان - اول که زای فارسی به جمیم عربی بدل شود چنانکه کرک و کجک (ارزو) و گویو باجدان باشستان اصطلاح - هر دو بقول برهان باشستان اصطلاح - هر دو بقول برهان و اندر وزن بار بند سینه بند عرض کند که ما حقیقت این بر بازگون و طغان و زمان مؤلف عرض کند که ما بازگونه بیان کرده ایم که به زای هوزر گذ حقیقت ماخذ هر دو را بر (بازرند) بیان کرده ایم که به زای هوزر عوض زای فارسی هوزر با زای فارسی بدل شود چنانکه آذیر و به زای مهمله چهارم گذشت و این مبدل و آذیر (سراج الدین راجی ۱۵) خاک آنست که زای هوزر به فارسی بدل شود پایت را از اصل از دیده بر سر می نهد -</p>	<p>بجایش گذشت مبدل این که زای فارسی که به جمیم عربی بدل شود چنانکه کرک و کجک - (ارزو) دیکه باج ستان - اول که زای فارسی به جمیم عربی بدل شود چنانکه کرک و کجک (ارزو) و گویو باجدان باشستان اصطلاح - هر دو بقول برهان باشستان اصطلاح - هر دو بقول برهان و اندر وزن بار بند سینه بند عرض کند که ما حقیقت این بر بازگون و طغان و زمان مؤلف عرض کند که ما بازگونه بیان کرده ایم که به زای هوزر گذ حقیقت ماخذ هر دو را بر (بازرند) بیان کرده ایم که به زای هوزر عوض زای فارسی هوزر با زای فارسی بدل شود چنانکه آذیر و به زای مهمله چهارم گذشت و این مبدل و آذیر (سراج الدین راجی ۱۵) خاک آنست که زای هوزر به فارسی بدل شود پایت را از اصل از دیده بر سر می نهد -</p>

آری آری هست و انهم کار مهند و بازرگون مؤلف عرض کند که صاحبان کثرو
 (عکیم خاقانی شہ) میسج و اربی رستی لغات ترکی کہ محقق ترکی ز باشند ازین
 گرفت آن دل پاک بازرگونہ رو فی بود چو ساکت بخیاں ما فارسیان طائفہ را از ترکا
 خط ترسا پختنی سبا و کہ و اترگون و وارگون نام کرده باشند کہ در قریہ بازرگونت
 کہ می آید تبدل همین است (ارود) و اختیار کرده باشد اسم فاعل ترکیبی است از
 (۱) بازرگون (۲) بازرگونہ - مصدر مانند قیاس محض است و اللہ اعلم
بازمان اصطلاح - بقول مؤید بحوالہ بحقیقہ الحال (ارود) ایک گروه کا نام
 شرفنامہ بازای فارسی طائفہ از ترکان فارسی میں بازمان ہے - مذکر -

پازن بقول سروری و جامع بفتح زای فارسی کوسفند پیشرو گلدہ باشد کہ بہا زش
 نیز گویند صاحب برہان گوید کہ ترجمہ این عبری کرازا است صاحب رشیدی فرما
 کہ این را نگہ ہم نامند صاحب شمس بر مطلق کوسفند قانع مؤلف عرض کند کہ اسم
 جاد فارسی قدیم است و پازن بہ بای فارسی اول وزای ہوز بمعنی بزکوی می آید
 (کمانی البرہان) و جاد اردو کہ اصل این ہمین پازن باشد اسم فاعل ترکیبی است بمعنی
 پای زتندہ و نقش قدم قائم کنندہ برای دیگران و کنایہ از پیشرو کہ گلہ گو سپندان بر
 آواز پای این براہ رود - بای فارسی بدل شد بہ بای عربی چنانکہ اسپ و اسب
 وزای ہوز را بدل کردند بہ زای فارسی چنانکہ بازو و باثر و جاد اردو کہ (پازن) را
 کہ بہ بای فارسی وزای ہوز بمعنی بزکوی می آید بہ تبدیلیات بالابری را نام نہادند

کہ پیشتر وگتہ باشد و این علامت بی خوفی اوست یعنی در عمدہ گتہ گو سپندان ہمین کی است
کہ بی خوف و خطر می رود چنانکہ بزکوی و دیگر گو سفندان پیروی این کنند (ارو)
وہ بکرا جو ریوڑ کے گتے آگے چلتا ہے اور سارا ریوڑ اسکی پیروی کرتا ہے۔ (مذکر)

بازوان اصطلاح۔ بقول ہفت بہ و او آن مولف عرض کند کہ حیف است
چارم بمعنی بازبان است دیگر کسی از کہ سند استعمال پیش نہ شد جزین نباشد کہ
محققین فارسی زبان ذکر این نکر و لکن ہامی تو زور آخر زائد است بر لغت
خلاف قیاس نیست مبدل بازبان باشد باز کہ بہ ہمین معنی گذشت۔ طالب سند
کہ بجایش گذشت موحده دوم بدل شد ہاشیم دیگر محققین فارسی زبان ازین
بہ و او چنانکہ آب و آو (ارو) و کھو بازبان ساکت (ارو) و کھو باز کہ پید
بازہ بقول اند بخوالہ فرنگ فرنگ اور دوسرے اور پانچویں معنی۔
بفتح ثالث و سکون ہا۔ باج و خراج و ما جس پر تفصیلی بیان ہے۔

باس بقول بر بان و جامع و ہفت بروزن طاس (۱) بمعنی قدیم ہاشد کہ
مقابل حادث است (۲) ترس و بیم رائیز گویند صاحبان ناصری و اندر بمعنی اول
قانع و فرزند کہ ہو و گذشتہ و قدیم را کہ ایام باستان گویند از ہمین است صاحب
سفرنگ باستان و فقرہ ہفتا دو یکم و ساتیر ذکر معنی اول کردہ (و ہو ہذا) کہنہ و نوو
پایندہ و ناپای و استنی از کہنگی خردوران و سپہ را خواہد کہ باس است (۳) انور
(۴) تا بسودہ در روز باس و زبیر ہا سہ زلف ہفتہ دست چنار ہا مولف

عرض کند که معنی اول اسم جامد زرد و پازند است و بمعنی دووم عربی است نمیدانیم که
 محققین بالا چگونه این را فارسی گفتند و تعجب از صاحب جامع که اهل زبانت
 را (رو) (۱) قدیم (۲) ذکر بقول اصفیه هندی - اسم مذکر خوف ترس خیره
 با سبوس بقول جهانگیری باسین موقوف نام ریجانی که آن را مرزنگوش گویند
 صاحب برهان گوید که بر وزن آبنوس آذان الفار صاحبان جامع و ناصری و
 مؤید هم ذکر این کرده اند صاحب (محیط) بر مرزنجوش فرماید که معرب مرزنگوش فارسی
 است و عبری شمسق و حبیب الفیل و غمق و یونانی مرووس و اناغلیس و تاموس
 و طامیوس و بهندی مروانامند و آن غیر آذان الفار است مؤلف عرض کند که
 هم او بر اناغلس ترجمه آذان الفار نوشته و بقول گیلانی و رای آذان الفار گفته و صاحب
 برهان بر اناغلس گوید که مرزنگوش و آذان الفار را گویند - ما این اختلاف را بر
 اناغلس بیان کرده ایم و در اینجا چاره خبرین نیست که بر قول صاحب محیط اعتبار
 کنیم که محقق مفردات طب است و مرزنگوش و مرزنجوش را مرادف با سبوس گیریم
 و بقول صاحب محیط طبع آن گرم در آخر دووم خشک در اول و بقول شیخ گرم خشک
 و رسوم با جمله ملطف و محتل و مفتوح و جالی و جاذب و مفتوح سرد و ملغ و نافع شقیقه و
 و صداع و منافعی بی شمار دارد (الخ) و هم صاحب محیط بر مر و لغت هندی حواله
 مرزنجوش دهد و صاحب مؤید بر با سبوس ترجمه آن در هندی موساکنی و عبری آذان الفار
 گوید و صاحب جامع الادویه بر آذان الفار ترجمه آن در فارسی گوش موش و بهندی

چونکہ اور وہ و مصطلح آن مرزنجوش کلمہ حریف است کہ ما از تحقیق مزید قاصدیم۔ و این
برین اختلاف کہ در اسمای مفردات طب مذکور یافته۔ اینقدر تحقیق باشد کہ با سبوس
اسم جامد فارسی زبان است و ترجمہ آن مرزنجوش (ارو) مرد البقول صاحب
مجیط و صاحب ساطع سینکریچین مرزنجوش کو کہتے ہیں۔ صاحب مجیط نے آذان الفارسی
پر اس کا ہندی ترجمہ موساکنی اور چوہ کنی لکھا ہے۔

باسیون ابوحدہ اول و چہارم بقول صاحب شمس لغت فارسی و نام گیا ہی
است مؤلف عرض کند کہ باسیون بہ تخمانی چہارم می آید تسامح صاحب شمس
یادست و رازی کاتب مطبع باشد کہ تخمانی را موحده نوشت (ارو) و کچھ باسیون
پستار و پستار بقول چہانگیری پستار بہ رای مہملہ آخر و پستار بہ تخمانی دوم
لفظیست مانند فلان و بہمان و پیمان۔ فرماید کہ فلان و بہمان را گاہی با ہم
نویسند و گویند و گاہی فرادی فرادی۔ پستار و پستار را نیز گاہی با ہم نویسند
و گویند و گاہی فرادی فرادی (از مکاتبات قاضی عین القضاة ہمدانی) علی بطل
از قدرت راہ بشرط و مشروط یکی است بی تفاوتی پس ہر کہ پندار د کہ فلان حادثہ
را سبب وجود فلان چیز است و فلان چیز را سبب وجود بہمان چیز است و بہمان
چیز را سبب وجود پستار چیز است باطل است و بعاقبت آخر این اسباب حقیقت
یہ خان آرزو در سراج گوید کہ لفظی است ترجمہ فلان کہ در فارسی فلانی زیادت تخمانی
نیز آمدہ و این وضع فارسیان است کہ گاہی بی ملاحظہ معنی یائی زیادت کنند

چنانکہ فضولی بمعنی فضول و تخصصانی بمعنی نقصان و اشکال و اصطلاحات متاخرین نوشته خواهد شد
 و بیسیایه یا اماله آن صاحب سروری (باستار و بیسار) هر دو را به یکجا نوشته گوید که یعنی
 فلان و بهمان و صاحب برهان بزرگ هر دو فرماید که از الفاظ متابعه همچو فلان و بهمان
 و استعمالش در اوصاف مجهول شائع باشد همچنانکه گاهی فلان و بهمان را جدا جدا استعمال
 می کنند باستار و بیسار را نیز جدا جدا می سازند و بقول رشیدی و جامع معنی
 فلان و بهمان و بقول ناصری از الفاظ متابعه مانند فلان و بهمان صاحب سفرنگ
 بشرح (نامه شت ساسان نخست) نقل فقره بتمش کند (و هو اهذا) آسمانها را
 کشا و و شگافت و پیوند و دوز نیست بس فرگوید سو بیها هستند جدا گانه چنانکه گویند
 باستار کس جنبید بیسار سو و فرماید که باستار معنی فلان و بهمان و بیسار همچو باستار است
 مؤلف عرض کند که باستار معنی فلان و اماله اش بیسار نیز معنی فلان است چنانکه
 گویند « باستار کس چنان می گوید یعنی فلان کس چنان می گوید و همچنین است استعمال
 (باستار و بیسار) هر دو به یکجا چنانکه « باستار و بیسار ذکر این کرده اند یعنی فلان
 و فلان ذکر این کرده اند (شمس فخری ۵) با وجودت از شهان باستان با چرخ ناز
 بر زبان جز باستار با مقصود شاعر نیست که بمقابله وجود ممدوح چرخ چون از باستان
 یعنی پیشینان ذکر کند نام شان بر زبان نگیرد و بر فلان قناعت کند مخفی مباد که این
 لغت زنده و پازنده است و حالا بر زبان معاصرین عجم تروک (ار و و) فلان بقول
 اصغیه (عربی) اسم مذکر شخص فرضی - امکا و همکا -

باستان بقول سروری (۱) قدیمی باشد و بقول جہانگیری و جامع و ناصری و مؤید
 باسین موقوف کہنہ و گذشتہ و قدیم و دیرینہ صاحب رشیدی بر قدیم قانع خان آرزو
 و رسراج با اتفاق رشیدی گوید کہ آنچه بیای فارسی شہرت دارد و خطاست مؤلف
 عرض کند کہ این مزید علیہ باس باشد کہ بمعنی قدیم گذشت نامی فوقانی بروز اند شد
 چنانکہ پا دوش و پا داشت و پس از ان الف و نون زائدان (میر مغزی سے)
 عقل نہ پسندو کہ من نوشیروان گویم ترا ہا گر چہ کس چون او نبود از خسروان باستان ہا
 (حکیم خاقانی سے) تختہ نرو پاکبازان در عدم گسترده اند ہا گر سرش واری برانداز
 این بساط باستان ہا (عبدالواسع جبلی سے) قلعہ بستد کہ ہرگز کس بران قادر نشد ہا از
 سلاطین گذشتہ و زطوک باستان ہا (ارو و) قدیم بقول آصفیہ عربی پرانہ ویرینہ
 (۲) باستان بقول سروری و رسراج و جامع بمعنی تاریخ صاحبان جہانگیری و
 برہان بذر معنی گویند کہ لغت پارسی وری است صاحب ناصری فرماید کہ بزبان
 وری تاریخ گویند کہ احوال گذشتگان در و جمع باشد و باستان نامہ کتابی است
 از تواریخ فارسیان صاحب مؤید گوید کہ بدین معنی لغت تازی است مؤلف
 عرض کند کہ تسامح صاحب مؤید یادست و رازی کاتب مطبع باشد کہ وری را تازی
 نوشت حیث است کہ سند استعمال این پیش نشد اگر پیش شود تو انیم عن کرد کہ مجاز
 معنی اول باشد کہ تاریخ ہم قدامت دارد (ارو و) تاریخ بقول آصفیہ عربی
 اسم مؤنث۔ اُس فن کا نام جس میں واقعات عظیمہ کا حال مندرج ہے اور واقعات

عظیمہ اور سیر کی وہ کتاب جس میں پادشاہوں کا حال معہ شہ پیدائش و جلوس اور وفات وغیرہ درج ہو۔

(۳۳) باستان۔ بقول برہان و جامع و مؤید کنایہ از دنیا و عالم و دہر مؤلف عرض کند کہ باعتبار صاحب جامع کہ از اہل زبانست عرض کنیم کہ مجاز معنی اول باشد کہ عالم ہم قدیم است و حق آنست کہ از اسناد معنی اول کہ گذشت ہر یک سند بکار این می خورد (ارو) دنیا مؤنت عالم۔ مذکر۔

(۳۴) باستان۔ بقول برہان و مؤید معنی مجرّد کہ از ترک و تجرید باشد و بقول جامع مجرّد از علائق مؤلف عرض کند کہ مشتاق سند استعمال باشیم۔ اگرچہ صاحب جامع از اہل زبانست و قولش اعتبار را شاید ولیکن این معنی را با معنی حقیقی تعلق نیست (ارو) مجرّد بقول اصفیہ۔ عربی۔ جریدہ۔ تہا۔ اکیلا۔ وہ شخص جو علائق دنیوی سے الگ ہو گیا ہو۔

(۳۵) باستان۔ بحقیق ما بمعنی پیشینیان و قدما باشد اندرین صورت باس را بمعنی خودش گیریم یعنی قدیم چنانکہ بجایش گذشت فارسیان بقاعدہ خود قوقالی بروز زیادہ کروند چنانکہ فراموش و فرامشت و پس از ان بالف و لون جمع مرکب شدہ باستان و معاصرین عجم این را بمعنی قدما بر زبان دارند و (باستان نامہ) کہ بمعنی نامہ پیشینان می آید متعلق از ہمین است۔ و آنچه صاحب نامہ صری بر معنی دوم باستان اشارہ فرمودہ (نامہ) کند قابل عذر است کہ پی بحقیقت نبرده (ارو) قدما بقول اصفیہ عربی

(۳۵۱۲)

اسم مذکر۔ قدیم کی جمع۔ لگے لوگ متقدمین۔ قدیم زمانہ کے لوگ۔

باستان نامہ اصطلاح۔ بقول برہان اشارہ این کردہ و ما تحقیق خود را بر معنی
 و ہفت نام کتابی است از تاریخ فارس و ہندوستان و ماہر کردہ و اہم کہ معنی نامہ قدیم
 مؤلف عرض کند کہ قلب اصناف نامہ و پیشین است (اردو) باستان نامہ
 باستان باشد و معنی لفظی این آنچه محققین مذکر۔ فارسی میں ایک کتاب کا نام ہے
 خیال کردہ اند کہ کتاب تاریخ است چنانکہ جس میں قدسے فارس کی تاریخ ہے۔ نامہ باستان
 صاحب ناصری بذیل معنی دوم باستان کا قلب اصناف۔

باستی بقول برہان و جامع و ناصری و مؤید و آند و ہفت بروزن راستی
 یعنی افتادگی و فروتنی مؤلف عرض کند کہ باستی یعنی قدیم بذیل معنی پنجم
 گذشت و زیادتی یا مصدری یعنی قدامت و لیکن استعمال فارسیان مجازاً
 یعنی افتادگی و فروتنی است کہ صفت قدامت و عیبی ندارد و اگر این را اسم جامد
 فارسی قدیم گیریم کہ لغت زرد و پازند باشد حیف است کہ ذخیرہ لغات قدیم
 یکم اللغاتی اہل زبان بر جانماندیاں مصدری در آخر این خبری دید کہ لغت مرکب
 باشد و قرین قیاس است کہ بوسست مزید علیہ بوس باشد زیادتی فوقانی در آخر
 چنانکہ فراموش و فراموش و بوس بقول برہان یعنی فروتنی آیدہ قیاس ما این است کہ
 معنی حقیقی بوس فروتن است نہ فروتنی و اقتضای ماخذ ہم لجا ط لغت باستی ہمیں پس
 و او بدل شد بالف چنانکہ توغ و تاغ و یای مصدری بر باستی زیادہ کردہ باستی

گرد و معنی فروتنی استعمال ساختند و اگر بوس را بقول برہان معنی فروتنی قائم داریم
اندازین صورت بعد زیادت فوقانی و تبدیل واو بالف و ترکیب یای زائد در آخر ہستی
معنی فروتنی باشد و اللہ اعلم بالصواب (ارو) فروتنی۔ بقول اصفیہ۔ فارسی ہم
مؤنت۔ عاجزی۔ سکینی۔

باستیان بقول رہنما بحوالہ سفرنامہ ناصرالدین شاہ قاجار معنی بارہ و بقول بوچیا
برج قلعه مؤلف عرض کند کہ در ترکی زبان باستیون قلعه را گویند (کافی الکثر)
معاصرین عجم و اورا بالف بدل کرده مقرر کرده اند چنانکہ توغرا تاغ گردند و
ہیج (ارو) دیکھو بارہ کے پہلے معنی۔

باستین بقول رشیدی (۱) بلوکیت از بلوکات سبزوار کہ بلوک سربداران
از ان بلوکند و (۲) باری کہ از میان شاخ بیرون می آید مؤلف عرض کند کہ
باستین بہشتین منقوطہ سوم بعض سین مہملہ یہمین دو معنی می آید بحث این ہمدراستا
کنیم (ارو) دیکھو باستین۔

باس داشتن | مصدر اصطلاحی یعنی قدر ترا ہندوی ہنتم صرخ باس یا بعضی
بزرگی داشتن و تعظیم کردن متعلق است برانند کہ بلحاظ معنی دوم کلمہ باس کہ لغت
بہ معنی لفظ باس برسبیل مجاز کہ از قدرت عرب باشد خوف داشتن و خوفناک بودن
بزرگی پیدا می شود (نوری ۵) ای ہم گیریم۔ (ارو) بزرگی کرنا تعظیم کرنا
خدمت از آغاز دوران داشته بطارم خوف کرنا۔ ژرنا۔

(۱۰۱۰۱)

<p>باسر آمدن مصدر اصطلاحی یعنی آمدن (زراری قهستانی ۵) همین دم موزه پوشم از سر دست</p>	<p>به تعظیم و ادب و مرادف از سر قدم ساختن</p>
<p>کلمه باورینجا متعلق معنی سیزدهم اوست</p>	<p>دیکهو از سر قدم ساختن -</p>

(الف) با سر هم | بقول برهان (الف) بفتح رای قرشت و سکون میم (۱) زمین را گویند

(ب) با سره | که برای کشت و زراعت مهیا کرده باشند و (۲) کشت را نیز

و (ب) بقولش بفتح ثالث و رابع معنی دوم (الف) و فرماید که سکون ثالث و کشت

هم منظر آمده صاحب سروری نسبت (ب) بر معنی دوم الف قانع و صاحب رشیدی

بذیل (ب) متفق با سروری و نیز فرماید که بقول بعض (الف و ب) هر دو معنی اول هم و

صاحب جهانگیری بذکر هر دو لغت بر معنی اول قناعت کرده خان آرزو در سراج

بذکر هر دو لغت نقل قول برهان و رشیدی کرده فرماید که تحقیق آنست که در اصل بلغم

بود و بعد از آن میم را حذف کرده های تویز آخر زیاد کرده اند و هر دو بیک معنی است

معنی اول و دوم نزدیک بهم میتواند که یکی حقیقت بود دیگری مجاز و اصل همان زمین

آراسته شده برای زراعت و صاحب جامع بذکر هر دو لغت بر معنی اول اکتفا کرده

و صاحب ناصری هر دو لغت را هر دو معنی آورده صاحب مؤید (الف) را بحواله

دستور معنی اول گوید و (ب) را بحواله قنیه معنی اول مؤلف عرض کند که با سره در

عربی زبان معنی ترش روی و بهریت و نمکین فارسیان همین لغت را مفرس کردند و

معنی زمینی استعمال کردند که برای زراعت تیار کرده باشند که قبل از زراعت و

ابرسانی پختیست وغیر شاداب باشد و پس ازان ہای ہوز بدل شد یہیم مثال این
تبدیل بقول صاحب قوانین و تشکیری پناہ و پیام است و معنی دوم مجاز معنی اول با محکم
تہ تحقیق باب اصل است و (الف) تبدلش برخلاف خان آرزو کہ موجب است و ادعایش
بالعکس خیال ما محض خیالش و اللہ اعلم اشس فخری ^{۱۰} پیوستہ کشت زار امیدش ز آ
کام کہ سیراب باو تا کہ بود نام با سرہ ^{۱۱} (ار و و) (الف و ب) (۱۱) و زمین جو زرا
کے لئے تیار کی گئی ہو۔ نوٹ (۲) کشت زار بقول آصفیہ۔ فارسی۔ اسم مونث۔
کھیتی۔ زراعت۔ کھیت۔ آپ ہی نے کھیتی پر فرمایا ہے کشت۔ بویا ہوا کھیت۔ بوی
باسک بقول سروری و سراج و ناصری بضم سین خمیازہ باشد صاحب جہا
فرماید کہ وہاں درہ۔ اس۔ فائرہ تیرگویند و صاحب برہان فرماید کہ سبب خمیازہ
خواب یا خار است صاحب رشیدی گوید کہ بیای فارسی ہم آمدہ صاحب جامع
فرماید کہ این را ترکی است کہ گویند بہار گوید کہ بالفظ زون و گردن مستعمل۔ صاحب
غیاث نوشتہ کہ ہمین است بہندی جاہی مؤلف عرض کند کہ بحث این برافرا
ہم گذشت و ماخذ این جزین نباشد کہ سک بالضم بقول برہان بمعنی نکبت و فلاکت
و کلمہ بامعنی ہمدہم اوست پس معنی لفظی باسک نکبت و فلاکت دارندہ و کنایہ از خمیازہ
کہ بخیاں قدما علامت نکبت و فلاکت است و تحقیق حکمای حال بہترین صورتی
کہ وقع تخان و تعب نماید (ار و و) جاہی۔ اسم مونث۔ دیکھو آفران کے تیسرے معنی۔

باسک زون استعمال۔ بہ کاف عربی چہارم۔ صاحب آصفی نوکر این کردہ

باسک کردن | از معنی ساکت و کنایہ از مبتدای تعذیب شدن و معنی سوم

بہار بذیل باسک اشارہ این کردہ۔ حقیقی باشد حیث است کہ سزا استعمال

مؤلف عرض کند کہ معنی فاشہ زدن ہر سہ معنی پیش نشد (ارو) (۱) بد فرج

است (طیان مرغری ۵) اسی برادر کے ساتھ ایک گھر میں مقیم ہونا (۲) یہود کو

بیار کاسہ می پڑ چند باسک زخم زخواب کے ساتھ ہم کلام ہونا۔ سابقہ پڑنا۔ (۳)

و حمار کے (قمری قزوینی ۵) چو باسک کتے کے ساتھ ایک تھیلے میں بند کی جانا۔

کنڈاہ من از حمار کے قرار مرہ نو ناید فرار یہ ایک قسم کی سڑ ہے جو فارس میں مجرب

پڑ (ارو) جاہی لینا۔ صاحب اصفیہ کو دیکھائی ہے۔ مبتدای تعذیب ہونا سزا پانا۔

نے جاہی کے ذیل میں اس کا ذکر کیا ہے **باسک بچوال فروشدن** (مصدر

باسک بچوال رفتن (مصدر اصطلاحی) اصطلاحی بچوال مؤلف مرادف مصدر

بقول برہان (۱) کنایہ از ہمانہ شدن با گذشتہ باشد ہر سہ معانی کہ ہمدراجا گذشت

مردم بد خو و (۲) معارض شدن با ہر سہ محققین فارسی زبان ازین ساکت اند۔

صاحب بجز بکر ہر دو معنی بالا گوید کہ (۳) (النور ۵) شد آنکہ دشمن او داشت

نوعی از تعذیب مجربان باشد مؤلف کہ بہ در انبان پانکون است وقت کہ با

عرض کند کہ حکامان سیاست پارس مجربان سگ فروش و بچوال پڑ (ارو) دیکھو

را تعذیب یا بستگی و بچوال می گردند و این باسک بچوال رفتن۔

اشارہ ہمان تعذیب است یعنی لازم و باسک و بچوال است (مقولہ)

(۵۱۸)

فارسیان چون کسی را با مردم بد خو میخوانند یا مار ڈالو۔ یہ اشارہ بھوکنے سے پیدا ہوتا ہے۔
 معارض ہرزہ گویند استعمال این مقولہ کنند و کن میں بھوکد سیا کسی آله جارحہ کو پیٹ
 صاحب سروری در ضمیمہ کتاب ذکر مصد میں ٹھونس دینے کو کہتے ہیں۔ نیز کہتے ہیں
 (باسک و رجوال شدن) کردہ و از کلام کتے سے مقابلہ پڑا ہے، یہ قریب قریب
 انوری سندی اور وہ کہ تعلق بہ معین مقولہ ترجمہ ہے اس فارسی مقولہ کا۔
 باشد (انوری سے) طبع گوگر بہ در اشیان **باسک و رجوال بودن** (مصدر
 فروشد) کہ جنل امروز باسک و رجوال (اصطلاحی) صاحب ناصر و ضمیمہ کتاب
 مؤلف عرض کند کہ مصداق اصطلاحی کہ ذکر این کردہ بر معنی اول و دوم از سر
 بعد ازین می آید بحث کامل این بران نکند معانی (باسک و رجوال رفتن) قانع مؤلف
 شود کہ این مقولہ قائم شدہ است از ہاں گوید کہ وجہی نیست کہ این را مخصوص کہنیم
 و مقصود ہمین قدر است کہ صحبت غیر معنی اول و دوم (ار و و) دیکھو باسک
 جنس دارو (ار و و) جب کسی بد مزاج رجوال رفتن۔
 یا غصیلے کے ساتھ یا ہودہ گو کے ساتھ **باسک و رجوال رفتن** (مصدر اصطلاحی)
 سابقہ پڑتا ہے تو دکن میں کہتے ہیں، اسے صاحب جہانگیری در ضمیمہ کتاب ذکر
 کتھے ہو تم بھی کیوں نہیں بھوکتے، اس مقولہ کو کردہ بر معنی اول و دوم (باسک و رجوال
 سے یہ معنی پیدا ہوتے ہیں کہ تمہارا مخاطب رفتن) قانع و ذکر معنی سوم نگہد مؤلف
 مثل کتے کے ہے اور اشارہ کرتا ہے کہ اسکو عرض کند کہ بہ تبدیل صہ (بہ) یا مہل (ور)

ترک معنی سوم را و چہی نیست۔ مراد فتنہ با اول و دوم (باسگ بجوال رفتن) کرده اند
 بہرہ معنی (ارو) دیکھو باسگ بہ و صاحب بجز ذکر معنی سوم ہم کردہ مؤلف
 بجوال رفتن۔
 باسگ در جوال شدن مصدر اصطلحی بجوال رفتن است بہرہ معنی (ارو) دیکھو
 صاحبان سروری و انہ ذکر این معنی باسگ بجوال رفتن۔

باسکون بقول خان آرزو در سراج مرادف بازگون و بازگونہ مؤلف عن
 پاسکونہ کند کہ ما اشارہ این بر بازگون و بازگونہ کردہ ایم زای متوز بہین
 مہملہ بدل شد چنانکہ آیاز و آیس (ارو) دیکھو بازگون اور بازگونہ۔

باسلیق بقول صاحب ضمیمہ برہان بزبان یونانی نام شہ رگی در دست و
 آن منسوب است بطرف باسلوس کہ بزبان یونانی بادشاہ را گویند صاحب انہ بجز
 بجز بجاہر صراحت کند کہ این رگ از دل و جگر رستہ است مؤلف عرض کند کہ
 باسلیق بہ شین معجمہ عوض سین مہملہ بقول صاحب لغات ترکی بمعنی سردار آمدہ و بقول
 صاحب سوار التبیل (باسلیق بہ سین مہملہ) معرب است از باسلکان یونانی بمعنی
 رگی کہ در دست باشد اگر آن را بکشند خون فاسد جگر خارج شود (انخ) پس فایز
 ہمین معرب را در فارسی زبان استعمال کردہ اند و لغتی خاص در فارسی برای این
 بنظر نیامد ازینجاست کہ ما این لفظ را درین کتاب جاواہد ایم (ارو) باسلیق
 بقول آصفیہ یونانی۔ اسم مؤنث۔ بازو کی اس بڑی رگ کا نام ہے جو دل اور جگر

میں سوکرائی ہے۔ مؤلف عرض کرتا ہے کہ دکن میں اسکو فصد کی رگ کہتے ہیں۔

<p>استعمال پیداکنیم یعنی بخوبی و ہنرمندی سے ویدولیکن درمجرود (باسلیقہ) معنی مصدری درست نباشد صاحب روزنامہ بقول غورنگر و علمای معاصر عجم بابا اتفاق (ارو) باسلیقہ سلیقہ مندرکہ یعنی وہ شخص جو اپنے کام کو ہنر اور سنجیدگی اور تیز کے ساتھ کرے۔ صاحب آصفیہ نے سلیقہ پر فرمایا ہے اسم نکر سرت طبیعت تیز شعور۔ و قوف ہنر سنجیدگی۔ تہذیب جوہر۔ لیاقت۔</p>	<p>باسلیقہ استعمال بقول صاحب روزنامہ ناصرالدین شاہ قاجار معنی ہنر سلیقہ لغت عربت طبیعت معاصرین او یعنی مفید دارند استعمال کردہ صاحب ہنر و تیز ہنرمند و سنجیدہ ہنرمند را باسلیقہ ہنر کہ معنی آن کسی است کہ صاحب ہنر و تیز ہنرمند و سنجیدہ ہنرمند تیز شعور۔ و قوف ہنر سنجیدگی۔ تہذیب جوہر۔ لیاقت۔</p>
---	---

پاسمرا بقول آند و ہفت بفتح اول بالف کشیدہ و بین مہلہ زوہ و فتح میم و ر
 مہلہ زوہ باقلا را گویند۔ صاحب مؤید ہم ذکر این کردہ و ہر تحقیقین بالا این را
 لغت فارسی گفتہ اند۔ صاحب محیط ذکر باسمر نکرد و ہر باقلا فرماید کہ کبر قاف ہت
 و نیز عبری ابورماج و یونانی فالش و فراموس و فراسو و ہر یانی بولا و کوفی و
 کرائیس و قوباوس و کونی و قبلی و مصری فول و عراق جزیر معرب گرگر و طغبت
 سخری کاٹوسک و بیستی کوسک و بفارسی باکلا و ہند نیز ہمیں نام مشہور و

بلہر نیز گویند طبع آن لقبول شیخ قریب از اعتدال و میل آن بسر وی و خشکی بیشتر و بعضی
 گویند سرد و دوم و تر و راول چون خشک شود و در آن تخفیف و قبض ظاهر و کوب
 اندرون آن نیز محفیف و قابض و گویند کہ آن از اعذیہ الیت کہ حفظ صحت و از روی
 لحم کند و بدن را فریب نماید و منافع بسیار دارد (الخ) مؤلف عرض کند کہ این را اسم
 جامد فارسی زبان دانیم (ارو) بقول آصفیہ عربی۔ اسم مذکر۔ مشر اور
 لوبیا کی قسم کا ایک غلہ ہے جسکی پھلیاں پکاتے ہیں اصل میں یہ مصر سے آیا ہے۔
 یا اسمہ خان آرزو در سراج گوید کہ نقاشی اور اوراق طلا و نقرہ خواہ بقلم کاری در
 جامہ پوشیدنی و امثال آن و مخفف این اسمہ بحرف الف کہ بہند چھاپہ گویند
 مؤلف عرض کند کہ ہمہ محققین فارسی زبان ازین لغت ساکت اند و نہ استعمل
 ہم پیش نہ شد و معاصرین عجم بزبان ندرند ہم او در چراغ ہدایت البتہ سند
 استعمال اسمہ چی پیش کردہ و صاحب شمس و بہار ہم نقلش برودہ و صاحب برہان برومہ
 گوید کہ در عربی معنی داغ و نشان و داغ کردن باشد (الخ) پس جا دارو کہ فارسیان
 بہ تبدیل و او با موحدہ (چنانکہ و برجن و برجن) (اسمہ چی) کسی را نام کہ دند کہ و زق طلا
 و نقرہ رابست کاری بجامہ نشاند چنانکہ مرزا طاہر وحید گفتہ (س) دلم ماند از اسمہ چی
 در شکفتہ ہا از و دیدہ ام نہ نش حیرت انگیزت ہا (طالعرا س) اسمہ چی رنگی ندارد
 از گلستان فقر ہا زانکہ بہر حبیب او نقوش ہوس را منظر است ہا و عجیبی نیست کہ (اسمہ چی)
 مرکب ترکی زبان باشد و فارسیان استعمالش کردند و لیکن حیف است کہ لغات ترکی

ازین ساکت بائی حالی ہرچہ تحقیق پوست (بسمہ چہ) باشد کہ سندا استعمالش بچہ موجود است
 ویتواند کہ ازین مرکب سندا (بسمہ) را پیدا کنیم ولیکن نیدانیم کہ خان آرزو (با سمہ)
 را از کجا پیدا کرده کسی از زبان دامن با اوست و سندا استعمالی چیز این نباشد کہ
 الہدایتہ من اللہ است کہ بر بعض لغات زمزمہ او ہمین است و تحقیقی کہ مبنی برین
 است القا باشد و بس محققین لغات را نمی رسد کہ باین قسم تحقیق لغات مجتہدہ را
 قائم کنند با بجز این از مجتہدات خان آرزو است و ما آرزوی سندا استعمال داریم
 (ارو) چھاپہ - مذکر - دکن میں اس نقاشی کو کہتے ہیں جو چھاپہ گر طلائی اور تھروٹی
 ورق سے ٹھپہ کے ذریعہ سے کپڑوں پر چھاپتے ہیں۔ صاحب آصفیہ نے ٹھپا پر
 لکھا ہے کہ نقش کرنے کا آلہ۔ پاسا۔ چھاپنے کا آلہ۔ ساچھا۔ اسم مذکر۔

با سنگ	بقول ضمیمہ برہان و بحر و انسند	نغمی سبا و کہ کلہ باورینجا یعنی ہند ہم اوست۔
بروزن آہنگ (۱) یعنی گران بار و (۲)	بائی حالی طالب سندا استعمال با شیم (ارو)	
عظیم القدر و صاحب تکبیر مولف عن	(۱) گران بار بقول آصفیہ فارسی۔ بوجہ میں لدا ہوا	
کنند کہ معنی اول موافق قیاس و تحقیقی است	بار و ار (۴) عظیم الشان بقول آصفیہ (عربی)	
یعنی گران و ارندہ و معنی دوم مجاز آن	والا قدر۔ بڑی شان او۔ شکوہ والا۔	

باسوا بقول انسند بحوالہ قرنگ فرنگ یعنی ثالث لغت فارسی است بمعنی خوب دستی
 و عصا۔ دیگر کسی از محققین فارسی زبان ذکر این نکر و اگر سندا استعمال پیش شود تو انیم
 عرض کرو کہ سبیل باز و است (کہ یہ ہمیں معنی گذشت) چنانکہ بہ فر و ہرس (ارو)

عصا بقول اصفیہ۔ اسم نکر۔ لاشی چوب دستی۔ وکھو بازو کے چوتھے حصے۔

ماسوس [بقول ضمیمہ برہان بروزن جاسوس۔ سچ کبر رومی را گویند۔ صاحب

مؤید ہم بذیل لغات فارسی ذکر این کرده و صاحب شمس گوید کہ لغت فارسی است

برای بیخ کشیر رومی۔ صاحب برہان بر کبر گوید کہ لفتح اول و ثانی نام رستنی است

کہ در دو اہا بکار برند۔ صاحب جامع الادویہ بر (کبر کی جڑ) ذکر بیخ کبر کرده کہ جڑ

اصل الکبر نام دارد و از بقدر تحقیق ثابت شد کہ تسامح صاحب شمس یا تصرف کا

مطبع باشد کہ کبر را کشیر نوشت۔ صاحب محیط بر کبر گوید کہ لغت عربی است یا مغرب

و یونانی اونیٹیس و قبارس و بسریانی قبار و برومی قباریش و بشیرازی کورک نامند

و بہندی کریل و اہل دکن درخت آن را نیچی گویند و درختی است خار دار و بیخ آن

سفید بزرگ طولانی و تلخ۔ گرم و خشک در روم و آنچه در بلا و گرم و خشک بہر سردا

سوم مجتل بیفتخ۔ جالی۔ دافع ریاح و سردی و منافع بسیار دارد۔ و بیخ آن مقطع طلف

یشقی بلغم و سودا و اخلاط لرجہ و النفع اجزای این درخت پوست بیخ آنست (الخ بیخ)

مؤلف (ماسوس) اسم جامد فارسی است برای بیخ کبر (دار و) کبر کی جڑ و کھو جامع

ماسوس [بقول ضمیمہ برہان و بہت و اندر وزن کاسہ سیاہ رور را گویند صاحب مؤید

بحوالہ قنیہ بذیل لغات فارسی ذکر این کرده مؤلف عرض کند کہ در عربی زبان با

بقول منتخب معنی عذاب و سختی آمدہ پس فارسیان ہامی نسبت در آخرش زیادہ کردہ

منسوب بعذاب و سختی و کنایہ از سیاہ رو گرفته باشند۔ طالب سزا استعمال باشیم

(ارو) سیاہ رو۔ بقول آصفیہ۔ فارسی۔ روسیہ۔ بے حرمت۔ بے عزت
 ولیل بدنام۔ خوار۔ رسوا۔ بے وقار۔ شرمندہ۔ کلنگی۔

باسی بقول اندجوالہ فرنگ فرنگ بکر ثالث لغت فارسی است یعنی (۱) یک

مرتبہ و (۲) قدری و (۳) طائر و (۴) حاشیہ یا کنارہ کہ بطریق آرایش بکار برند

مؤلف عرض کند کہ دیگر محققین فارسی زبان ازین ساکت و سداستعمال پیشتر

و معاصرین عجم بزبان نذارند اگر سداستعمال بدست آید تو انیم عرض کرو کہ اسم جامد

فارسی قدیم باشد (ارو) (۱) ایکبار۔ ایک دفعہ۔ ایک مرتبہ۔ (۲) تھوڑا سا

(۳) پرند۔ طائر۔ مذکر (۴) گوٹ۔ بقول آصفیہ۔ ہندی۔ اسم مؤنث۔ سنجاف۔

حاشیہ۔ کنارہ۔ مغزی۔ وہ کپڑی دچی جو دوپٹہ رضائی وغیرہ کے گرد لگاتے ہیں۔

باسیج بقول اندجوالہ فرنگ فرنگ۔ بای عربی و فارسی ہر دو کسر ثالث در

فارسی زبان پرستوک را گویند مؤلف عرض کند کہ دیگر محققین فارسی زبان ازین

ساکت و بای فارسی ہم نہ نوشتہ اند و اگر سداستعمال بدست آید تو انیم عرض کرو کہ اصل

این (باسیز) باشد مرکب از کلمہ با کہ معنی ہند ہمیش گذشت یعنی منفید معنی اسم فاعل و

سیر یعنی تیزی آید معنی لفظی این تیزی دارندہ و سریع در پرواز و کناہ از پرشک و پرتو

کہ تیزی پروازش معروف است زای ہوز بدل شدہ جمیم عربی چنانکہ سوز و سوخ۔

(ارو) ابابیل۔ مؤنث۔ دیکھو و افسرگر۔

باسیدن بقول اندجوالہ فرنگ فرنگ بای عربی و فارسی ہر دو معنی حرارت

و حفاظت کردن مؤلف عرض کند که صراحت ماخذ این بر (پاسیدن) بایستی قدری کنیم و در اینجا همین قدر کافی است که اگر سزا استعمال این پیش شود تو انیم عرض کرد که سید (پاسیدن) باشد که بای فارسی عبری بدل شد همچون تپ و تپ دیگر کسی از محققین فارسی زبان ذکر این نکرد (ارو) و کجیو پاسیدن یعنی نگاهبانی کردند.

پاسیره بقول اندر جواز فرنگ بر تالشه سکون تختانی و فتح رومی جمله لغت فارسی است یعنی (۱) شاعر و (۲) مورخ و (۳) مزرع کاشته دیگر کسی از محققین فارسی زبان ذکر این نکرد و طالب سزا استعمال باشیم و اگر پیش شود تو انیم عرض کرد که اسم جامد فارسی قدیم باشد. ترکیب و کلمه بامعنی مفید همیش مفید یعنی اسم فاعل و متقامنی است که های تیز آخره زائد باشد و سیر به کسرین و فتح تختانی و رومی جمله یعنی تاریخ پس معنی لغتی این صاحب سیر و صاحب تاریخ و مجازاً شاعر را هم توان گفت و لیکن هیچ تعلق با معنی سوم ندارد و متصرف در اعراب تنجیب و لهجه مقامی باشد و آن علم (ارو) (۱) شاعر قبول آصفیه شعر گفته والا (۲) مورخ - تاریخ کا مؤلف - صاحب تاریخ - (۳) کجیتی - مؤنث بقول آصفیه - زراعت کشت کشت زار - بویا هو اکیهت -

پاسیلک صاحب رهنما بجواله سفرنامه ناصرالدین شاه قاجار گوید که همان بسیلک که خوابگاه سلطانی را گویند مؤلف عرض کند که حقیقت بسیلک بر (بازی لیلی) بیان کرده ایم و در اینجا چیزی نیست که تختانی دوم (جیسی لیکا) را که لغت طینی است بالف بدل کردند چنانکه ریمغان و اریمغان و تختانی ششم و الف آخره را تخفیف کرده

برای خواجگاہ سلطانی استعمال کردند پس مقرر شد و بس (ارو و خواجگاہ سلطانی) ^{نشد}
 با سپید دل چه بود گفتن و عوط ^{مقولہ} و ظالم و سنگدل است کہ بجای خودش
 صاحبان خمرینہ و امثال فارسی و محبوب ^{الکلام} می آید فارسیان این مقولہ را بحق ظالم سنگدل
 و احسن ذکر این کرده اند و از معنی ساکت ^{و ساکت} استعمال کنند کہ نصیحت و موعظت بحق او آ
 نگذرتہ مصرع ثانی را ہم نقل کرده (و بویزا) می کنند (ارو و) دکن میں کہتے ہیں ^{ظالم}
 نرو و میچ آہنی در سنگ پڑ و این شعر از کلام ^{کوکان} نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ
 شیخ شیراز است۔ مؤلف عرض کند کہ کسی کی نصیحت نہیں سنتا اور نصیحت
 سیاہ دل بقول صاحب بکر کیا یہ از گناہگا کا اثر اس پر نہیں ہوتا۔

باش ^{بقول} عنیمہ بر بان (۱) ترجمہ قدیم و بقول ہفت و موید و آند (۲) بیان
 و بگذارو (۳) با او و (۴) با او و صاحب رہنما و بول چال بحوالہ سفرنامہ ناصر الدین
 شاہ قاپا گوید کہ (۵) یعنی افسر صاحب سخندان فرماید کہ مرادف باس بہ سین مہملہ باشد
 کہ در سنکرت فعل است یعنی سکونت و بقول صاحب ساطع باس در سنکرت بہ سین
 مہملہ یعنی خانہ مؤلف عرض کند کہ یعنی اول اسم جاہد فارسی قدیم است و ہمین است
 اسم مصدر (باشیدن) کہ می آید و معنی دوام امر حاضر است بلحاظ معانی مصدر مذکور
 و نسبت معانی سوم و چهارم عرض می شود کہ حقیقت شین معجمہ کہ ضمیر متصل باشد بر کلمہ
 (اش) بیان کردیم کہ اگر ضمیر مفعول بود بعد فعل آید یعنی او را چنانکہ گفتندش یعنی گفتند او را
 و اگر ضمیر مضاف الیہ بود با اسم ملحق شود چنانکہ رخس و کلبش یعنی رخ او و لب او پس

اور کلمہ باش ضمیر متصل باللفظ یا کہ معنی معیت است ملحق شد معنی با او نمیدانیم کہ ہر سر
 محققین بالا و سیما صاحب مؤید الفضا حیرا بافضلا بازی کند و بتدیان را در غلط اندازد
 و نمیداند کہ (با اورا) چه معنی دار و قائل۔ مخفی مباد کہ لفظ باش معنی پنجم لغت ترک است
 کہ فارسیان استعمالش و صاحبان کثر و لغات ترکی ذکرش کرده اند و دیگر ہیچ (ار و و)
 (۱) قدیم۔ دیکھو باستان کے پہلے معنی۔ (۲) شہر۔ چھوڑ (۳) اسکے ساتھ (۴) ناقابل ترجمہ
 (۵) افسر۔ بقول آصفیہ۔ اسم مذکر۔ سردار۔ عہدہ دار۔ دیکھو اوچہ۔
 باشا بقول انند جوالہ فرنگ و رنگ (۱) یعنی باشندہ و (۲) یعنی بادشاہ و (۳) و
 و (۴) جانوریست معروف کہ بدان شکار کنند و صراحت فرماید کہ لغت فارسی است
 صاحب بول چال گوید کہ (۵) یعنی افسر۔ مرادف باشی۔ مؤلف عرض کند کہ دیگر کسی
 از محققین فارسی زبان ذکر معانی بالا نکر دو بخیاں ما باشا یعنی اول مختلف باشان باشد کہ
 اسم حال از باشیدن است بجزف نون آخر چنانکہ ایشان و ایشان و معنی دو مختلف
 بادشاہ بجزف وال مہملہ و ہامی ہوز ہر دو چنانکہ بدتر و تیر و گیاہ و گیاہ و جاوار و کہ بہ
 معنی دو م و سوم سبذل لغت ترکی (پاشا) گیریم چنانکہ اسپ و اسب۔ صاحب کثر کہ
 ترکی زبانست ذکر ہر دو معنی بہ ہامی فارسی کردہ و معنی چارم سبذل باشد کہ بہ ہامی ہوز
 در آخر می آید یعنی باز کہ بجایش مذکور شد معنی پنجم لغت ترکی است کہ صاحب کثر
 این را معنی تید و مولی نوشتہ۔ اینست حقیقت این لغت و حیف است کہ محققین بالان
 سند استعمال این در فارسی بہر ہیچ معانی بالا پیش نکر دند (ار و و) (۱) باشندہ۔

(۲) دیکھو بادشاہ (۳) وزیر لقبول آصفیہ عربی۔ اسم مذکر۔ دیوان پر وہان۔ مدار المہام
وستور (۴) دیکھو بازک (۵) دیکھو افسر۔

باش اچق اصطلاح۔ بقول صاحب لہجہ اور ترکی زبان بمعنی سرو اچق بمعنی مفتوح و
بمعنی (۱) سر برہنہ و (۲) نام قومی کہ زن و کشوف آمدہ پس شک نیست کہ این کرب
مردش و انبار برہنہ سر باشد و صاحب رہنا بہر دو لفظ ترکی زبان است کہ معاصرین عمم
ہم جو کہ سفر نامہ ناصر الدین شاہ قاجار ذکر استعمال این کردہ اند (اردو) (۱) برہنہ سر
بہر دو معانی بالا کردہ مؤلف عرض کند کہ بیگے سر (۲) ایک قوم کوفار سیون نے باش اچق
صاحب کٹر محقق ترکی زبان است ذکر کہلے ہے جس کے مرد اور عورت ہمیشہ
این لغت مرکب تکرر و لیکن بقولش باش برہنہ سر رہتے ہیں۔

باشام بقول سروری و جامع (۱) بمعنی پردہ باشد مطلقاً صاحبان برہان و جامع
وانند و بہت مرحمت کنند کہ خواہ پردہ در باشد خواہ پردہ ساز۔ صاحب رشیدی
باشامہ و باشومہ و باشام ہر سہ را مرادف یکدیگر بمعنی (۲) سر انداز زنان گوید کہ
بتاریقی مقفہ باشد خان آرزو در سراج بذکر قول برہان و رشیدی فرماید کہ تحقیق
آنت کہ در باشام و باشامہ تفرقہ بیجا است مؤلف عرض کند کہ ما با صاحب رشیدی
و خان آرزو اتفاق داریم از سیکہ ماخذ این تقاضی آنت کہ ذکرش بر باشامہ ہی
و اصل این باشامہ مستحق است و این مخفف آن بجزف ہای ہوز آخرہ و معنی مطلق
پردہ بجز باشد و معنی حقیقی این جامہ سر چنانکہ صراحت این بر باشامہ کنیم و کنایہ

از نقاب و مقنعہ (ار و و) (۱) پردہ لقبول آصفیہ اسم مذکر۔ و کھیلو لفظ بار کے تیر ہونے
 معنی (۲) نقاب لقبول آصفیہ عربی۔ اسم نوث و مذکر۔ وہ پردہ جو ہنہ پر ڈالتے ہیں
 مقنع چہرہ پوش۔ وہ جامی جو غورین ہنہ پر ڈالتی ہیں (داغ ۵) جوش جنون نے ساق
 و یا جوش حسن کا پتھرے اوپر نقاب اوپر ہرین ہوا پتھر

باشامہ لقبول سروری مرادف باشومہ کہ می آید بہ تبدیل الف با و او تبدیل این
 بمعنی سرپوش زنان چون چادر وغیرہ و چون چنانکہ تاغ و توغ بمعنی از معاصرین عجم
 چنانگیری و نامری و برہان بفتح میم معجمی این را اسم جامد فارسی قدیم دانند و
 باشد کہ زنان بر سر اندازند و لقبول رشیدی زحمت فرید را نمی پسندند (فخر گمانی
 و جامع مرادف باشومہ و باشامہ بمعنی سراندازند) در یدہ ماہ سپیر جامہ در بر پانگنہ
 زنان کہ بازی مقنعہ گویند۔ خان آرزو در لالہ گون باشامہ از سر پانگنہ (کمال کوتہ پا
 سراج این را مرادف باشامہ گفتمہ کہ گذشت) باشامہ بگردان حسین مہوش پانگنہ
 مؤلف عرض کند کہ اصل این باش جامہ چون ہالہ مگر و ماہ زمیندہ و خوش پانگنہ
 بود بمعنی جامہ سر کہ بلغت ترکی باش بمعنی سر کس کہ بیدید آن رخ چون خورشید پانگنہ
 آمدہ کذا فی الکنز جیم بکثرت استعمال حذف بر آورد کہ آتش آتش پانگنہ (فخر گمانی ۵)
 شدہ (باشامہ) باقی ماند و این مرکب از وزان پس و او آرزین نامہ و پس پانگنہ
 لغت ترکی و مفرس باشد و باشامہ کہ بدو پانگنہ و باشامہ و پس پانگنہ (ار و و)
 ہای ہوز آخرہ گذشت مخفف این و باشامہ و کھیلو باشامہ۔

باشانه | بقول اند بجزاله فرنگ فرنگ بفتح نون لغت فارسی است (۱۰) بمعنی فریه
 و (۲) روغن جوز را گویند و (۳) بمعنی چیزهای پراکنده و متشرد (۴) بمعنی منتخب و
 برگزیده مؤلف عرض کند که اگرچه دیگر کسی از محققین فارسی زبان ذکر این هر
 چهار معنی نکرده است ولیکن خلاف قیاس نیست و برای معنی اول باید که این
 را مرکب دانیم با لفظ با بمعنی بفتح همیش که مفید معنی اسم فاعل است و شانه استخوان
 کتف را گویند پس معنی حقیقی این شانه دار یعنی کسی که استخوان شانه اش قوی و کنایه
 از فریه و معنی چهارم مجاز این و بمعنی دوم هم من وجه تعلق دارد از همین که بهلوان
 عموماً روغن جوز را بر شانه های خود می مالند صاحب محیط ذکر این نکرد و بر جوز
 فرماید که معرب کوز است و روغن آن بهتر از مغز و شدید الحار است قوی التحلیل
 و گاه روغن آن بکوفتن و افشردن بر می آرد و در آن چیزی از دوائیت است
 و روغن کهنه مورث درد حلق (الخ) بخمال ما وجه تسمیه این جزین نباشد که روغن
 این را بزور شانه مرد قوی حاصل کنند ذریعه دشته باون نسبت معنی سوم طالب سند
 باشیم که بعد از قیاس است و هیچ تعلق با معنی حقیقی ندارد (ار و و) (۱۱) فریه بقول
 آصفیه - فارسی - لاسر کا مقابل جسمیم - و کیو از نب (۲) جوز کار روغن - مذکر (۳) پرا
 او و متشرد چیزین - مؤنث (۴) منتخب برگزیده -

باشت | بقول سروری و برهان و سراج و جامع و شمس بر وزن چاشت (۱) چوب
 بزرگ که سقف خانه را بان پوشند صاحب جهانگیری فرماید که این را شاه تیر و قوس

نیز خوانند و بقول ناصری و انشد (۲) نام محل و منتری است در حوالی کوه کیلوند فارس
 کہ الواو را بنجاساکن اند و آن را (باشت بادی) گویند و بادی نام آن طائفہ
 مؤلف عرض کند کہ بمعنی اول مغز است کہ فوقانی زائدہ بر لغت ترکی باش زیاد
 کرده اند کہ بمعنی سرآمدہ (کذا فی الکتر) و برای چوب بزرگ استعمال کردند کہ بر سر ما
 حامل سقف خانہ باشد (نظامی عروضی ۵) بی پایہ ترا و سقف بی پشت بہ عقل
 نگہ نمی توان داشت و نسبت معنی دوم عرض می شود کہ محجربا پشت نام محل و منتری
 نیست بلکہ (باشت بادی) مقام محل سکونت طائفہ خاص را نام است و پشت
 و ریخا فرید علیہ باش زیادت فوقانی (چنانکہ پاداش و پاداشت و فرامش و فرامشت
 حاصل بالمصدر) باشند کہ بمعنی سکونت کردن می آید) و معنی لفظی این مقام سکونت
 طائفہ بادی (اردو) (۱) شہتیر شاہ تیر و کچھو افر سب (۲) پشت بادی ایک
 مقام کا نام ہے جس میں قوم بادی کی سکونت ہے۔ مذکر۔

باشتین | بسکون شین معجمہ و کہ فوقانی و سکون تختانی و نون بقول سروری بحوالہ
 تحفہ بروزن استین (۱) باری کہ از میان درخت پیرون آید و بحوالہ فرہنگ گوید کہ
 (۲) نام بلوکی از بلوکات سبزوار صاحبان چہانگیری و برہان و جامع بذر کہ سرد معنی
 نسبت معنی اول راحت فرید کنند کہ این بار بر آید بی آنکہ گل کند۔ خان آرزو در سر
 بذر معنی اول نسبت معنی دوم گوید کہ این قسم درختان کہ چندین سیوہ آورند در ان بلو
 بسیار باشد و ہذا بدان موسوم شد صاحبان ناصری و مؤید بر معنی دوم قانع مؤلف

عرض کند که باش در ترکی زبان یعنی راس و سر گذشت و باشت زیادت فوقانی در
 آخر مزید علیش چنانکه پا و آتش و پا و آشت و پس از آن یانون نسبت در آخرش زیاده
 کردند و معنی لغظی این منسوب به سر و کسایه باشد از گری که بعضی درختان را از شاخ برآید
 که مدور و مشابه سر انسان باشد و چون آن گره را چاک زنند داخل آن چیزی بنظر آید
 که من حیث صورت مشابه ثمر آن درخت باشد ولیکن ثمر اصلی نیست و درختانی را
 که ثمرش مدور باشد چنانکه انبه و غیر ذلک خود آن گره مشابه ثمری نماید محققین علم فلاحت
 این گره را مرغی گویند که عارض شود آن درخت را و سبب مرض کثرت ماده باروری
 که در درخت باشد چنانکه انسان را آب منی گویند که انسان را منی و درخت را این
 جوهر چون بکثرت پیدا شود قدری از آن در خون انسان وسیلان آب درخت جذب
 شده انسان و درخت را تقویت کلی بخشد و به کل اعضای انسان و شاخ و بن درخت
 نشوونمای کامل پیدا کند و گاهی همین جوهر تمام تر رجوع کند به عضو خاص انسان
 و به شاخ از شاخهای درخت اندرین صورت کثرت آن در عضو و شاخ خاص مرغی
 پیدا کند که انسان را رسولی و درختان را باشتین نام دارد و رسولی انسان را در
 عربی زبان سلعه گویند و علامت این مرض آنست که انسان را غدودی بزرگ
 در آن عضو و درخت را کیسه کلان در آن شاخ پیدا شود محققین طب گویند و ما هم مشاهده
 کرده ایم که داخل بعضی رسولی های انسانی موی سه و ناخن انسان و استخوان و شبیه به پوست
 یا گوش و بینی انسانی موجودی باشد و تولید تشکیل این از همان ماده منی می شود که

در رسولی جمع شدہ بحث کامل رسولی بجایش کنیم و در اینجا ہمیں قدر کافی است کہ باشتین نباتات را بچنانست کہ رسولی انسان را نسبت معنی دوم خیال خان آرزومن و چہ درست باشد یا منظر بر قدامت آن بلوک باشتینش نام کرده باشند یا وجہ تسمیہ آن چیز دیگر باشد و اللہ اعلم بحقیقۃ الحال (ار ۹) (۱) در خون کی وہ گرہ جو شکل سیوہ ظاہر ہوتی ہے جیسا کہ انسان کے جسم میں رسولی - موٹ (۲) بنزوار کے ایک حصہ ملک کا نام باشتین ہے جو کئی قریوں پر شامل ہے۔ مذکر۔

باشجر اسباب مؤید بذیل لغات فارسی گوید کہ باشتین معجمہ موقوف بالا را گویند حیف است کہ سداستعمال پیش نہ شد و دیگر کسی از محققین فارسی زبان ذکر این نکر و مؤلف گوید کہ اگر سداستعمال بدست آید تو انیم عرض کرد کہ مفرس است و مرکب با کلرہ با کہ بمعنی سوی و طرف و جانب گذشت معنی لفظی این جانب شجر و کنایہ از فوق و بالا و کچھ معاصرین عجم بر زبان ندرند (ار ۹) بالا۔ بقول آصفیہ۔ فارسی۔ فوق۔ اوپر۔ بخلاف زیر۔ پر (عربی میں اس کا ترجمہ علی ہے)

باشجنگلی اصطلاح۔ بقول صاحب	ترکی زبان معنی سردار آمدہ و معنی لفظی این
بول چال۔ (۱) دار و غہ جنگل و صحرا و	افہ منسوب بہ جنگل و کنایہ از دار و غہ جنگل
بقول رہنما جو کہ سفر نامہ ناصر الدین شاہ	صحرا کہ انتظام درختانش بدو متعلق باشد
قاچار (۲) بمعنی باز مؤلف عرض کند کہ	و معنی دوم مرکب توصیفی است کہ باش
معنی اول مرکب مفرس باشد کہ باش در	منحرف باشندہ بمعنی ساکن از مصدر باشند